

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لِقَىٰ إِلَّا اللَّهُ

بِالْحَيِّ بِأَقْبَلِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ النَّبِيِّ الْإِسْمَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلِّ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا بِنَدَا بَدَا

دیباچہ

ان ادعیہ مبارکہ و درود ہائے شریفہ میں

- ۱- ہفت ہیکل
- ۲- شش قفل
- ۳- دعائے امن
- ۴- دعائے نور
- ۵- دعائے جمیلہ
- ۶- دعائے عکاشہ
- ۷- مناجات از حضرت خواجہ اویس قرنیؓ
- ۸- دعائے مغنی
- ۹- دعائے سیفی
- ۱۰- دعائے گنج العرش
- ۱۱- درود مستنات
- ۱۲- درود کبریت احمر
- ۱۳- درود اکبر
- ۱۴- درود تفریحیہ یعنی درود ناریہ
- ۱۵- درود تاج
- ۱۶- درود لکھی
- ۱۷- قصیدہ بردہ
- ۱۸- دعائے اختتام
- ۱۹- دعائے حزب البحر

- ۲۰ - دعائے اختتام
 ۲۱ - درود ماہی
 ۲۲ - دعائے مستجاب
 ۲۳ - دعائے سریانی
 ۲۴ - دعائے گنجینہ رحمت
 ۲۵ - قصیدہ غوثیہ
 ۲۶ - دعائے حضرت ابراہیم اوہم
 ۲۷ - دعائے حضرت ذوالنون مصری
 ۲۸ - دعائے حضرت ذوالنون مصری^م
 وغیرہ شامل ہیں -

یہ دعائیں ہر جگہ ہر گلی ہر کوچہ، ہر بستی، ہر شہر میں ہر خاص و عام کے عموماً درو زبان ہیں، اور ہر جگہ سے اپنی اسی صورت میں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ ان کے قارئین کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، کہ ان کا شمار میں لامحالہ سے انہی دعاؤں کی اسناد حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتی، لیکن ان کا بزرگان سلف سے تواتر کے ساتھ پڑھنا مذکور ہے، یہ چند دعائیں جو قصائد کی صورت میں منظوم ہیں۔ عشاق صادقین کے جگہ سوختہ سے نکلے ہوئے اشعار ہیں۔ جن میں اللہ سبحانہ اور رسول اکرم و اجمیل صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اور جو دستخا کے تذکرے ہیں۔ محبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشعار کو نہایت عقیدت سے پڑھنے اور جھوم جھوم جاتے ہیں۔ دل پر ایک خاص رقت طاری ہو جاتی ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے لے کر آج تک ہر زمانہ اور ہر دور میں ہر طبقہ کے اشخاص بالخصوص صالحین، محدثین، محققین اور مجتہدین

نے انہیں پورے اہتمام کے ساتھ پڑھا ہے، اور ان کے پڑھنے کی ترغیب اپنے رفقا و لواحقین کو دیتے رہے ہیں۔ مثلاً قصیدہ بردہ شریف، درود کبریٰ — یہ دعائیں جن الفاظ و کلمات پر مشتمل ہیں۔ علمی، ادبی، مذہبی اور تنقیدی نقطہ نظر سے بھی حُسنِ کلام، علوم مقاصد، معنوی پاکیزگی کے اعتبار سے یکتا و نادر المثال ہیں بلکہ ادبی نقطہ نظر سے یہ کہنا بھی درست ہے، کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عربی زبان کا فصیح و بلیغ اور پُر معنی کلام ہے۔

انے دعاؤں کے کلمات ناقدین حدیث کے اقلام اور زبان سے بھی گزے ہیں۔ اور ان کے اقلام و زبان سے خراجِ تحسین کی سند لئے ہوئے ہیں۔ ان دعاؤں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو کلام کیا جاسکتا ہے، وہ صرف ان فضائل کے بارے میں ہے، امتدادِ روزگار کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے صوفیائے کرام نے ان کی قرأت کی ترغیب کی خاطر غلو اور مبالغہ آرائی سے کام لیا ہوا ان صوفیائے کرام کا یہ اقدام اگرچہ کتنا ہی مصلحت آمیز کیوں نہ ہو۔ حقائق اور صداقت کے اعتبار سے قابلِ پذیرائی نہیں ہو سکتا۔ اور اوراد و وظائف کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، کہ انہیں محض دنیوی مطالب کے لئے پڑھنا انکی اہمیت اور وقعت کو ضائع کرنا ہے، ہمارے نزدیک ذکر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل ذوالجلال والاکرام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کہنا چاہیے اور اپنی اور امت مسلمہ کی مغفرت اور بھلائی کی دعا مانگتی چاہیے۔

انے دعاؤں کے فضائل کے بارے میں جو روایات ان کتابچوں میں مذکور ہیں۔ ہم ان پر من وعن یقین نہیں رکھتے۔ ان روایات میں موضوع روایات

شامل ہیں۔ مثلاً جگہ جگہ لکھا ہے — ”جو اس کی اسناد میں شک لاوے۔ کافر ہو جاوے“ — وغیرہ وغیرہ — اور — مومن بھلا کیونکر کسی غیر متند روایت کو صحیح مانے۔

جہاں تک دعائوں کے کلمات مبارکہ کا تعلق ہے، وہ بلاشبہ حُسنِ کلام کا بہترین نمونہ ہیں۔ اور اکابر امت کی زبانِ پاک سے پُر تاثیر سے تو اتر اور کثرت کے ساتھ مروی کلمات ہیں اور ہر زمانہ میں ادیبانِ دمج و مدین کے فکر و نظر سے گذر کر ہم تک پہنچے ہیں۔ ہر جگہ اور ہر مقام پر یہ دعائیں تنقید کی بجائے ترغیب سے ہمکنار رہی ہیں۔

بعضے دعائیں بزرگانِ دین کے معمولاتِ یومیہ میں شامل رہیں ان دعائوں کے ثَمول نے ان کی مین ویرکت اور تندر و منزلت کو دوایا کہ دیا ہے۔

انے دعائوں کو زبانِ زدِ خاص و عام دیکھتے ہوئے اور امت کے نیک اور دین دار لوگوں کو کثرت اور اہتمام کے ساتھ ان کا ذکر کرتے دیکھ کر میں نے بھی انہیں وردِ زبان رکھا۔ اور پھر اپنی اس تالیف — ”کتاب العمل بالسنۃ“ میں انہیں حُسنِ ترتیب سے شائع کرنے کا ارادہ کیا۔ اور ان کی اشاعت کے بارے میں مختلف مکتبِ خیال کے علماء سے فتوے لئے، ہر مفتی نے الگ اور جدید رائے کا اظہار کیا۔ بعض نے ان کی من و عن اشاعت کی ہر ذرہ سفارش کی۔ اور بعض نے ان کی اشاعت کو سرے سے ناجائز و فساد دیا۔ اور فتاویٰ میں سے کوئی بھی ہمارا دلی اطمینان نہ کر سکا۔ ان کی اشاعت کے خلاف فتویٰ

دینے والے حضرات ان دعاؤں کے ضرر اور منافی شریعت ہونے کی کوئی دلیل نہیں دے سکے، اس طویل و عریض بحث و تمحیص کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ کہ ان دعاؤں کا متن من و عن شامل نصاب سلسلہ عالیہ قادریہ مجددیہ، عقورئیہ، رحیمیہ، کریمیہ، امیریہ میں شامل کر کے اسے اس کتاب العمل بالسننہ کے حصہ ششم کے طور پر شائع کر دیا جائے۔ اور ان دعاؤں کے بارے میں فضائل کی روایت کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ ان دعاؤں کو سلف صالحین کا شعار اور طریقہ سمجھتے ہوئے اپنے روزمرہ اذکار میں شامل کیا جائے۔

ہم ان دعاؤں کے فضائل کے سلسلہ میں کسی بحث میں پڑنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ قارئین کرام کی واقفیت عامہ کے لئے حاشیہ پہ اسناد بھی لکھ دی گئی ہیں، جہاں کسی سند کے نیچے لکھا ہوا تھا۔ جو کوئی اس کی اسناد میں شک لاوے گا فرہو جاوے۔“ — ایسے فقرہ کو حذف کر دیا گیا ہے، ان دعاؤں کی ظاہری و باطنی۔ لغوی و معنوی مین و برکات کا شمار ناممکن و محال ہے، قارئین کرام کو بلا امتیاز اور بلا قید تعداد ان دعاؤں کے پڑھنے کا اذن عام دیتے ہیں۔ وہ ان دعاؤں کے وسیلہ سے اللہ سبحانہ سے رحمت طلب کریں اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی دعائیں مانگیں۔

احقر برکت علی لودھیانوی عفی عنہ

المہاجر الی اللہ و المتوکل علی اللہ العظیم

— ساعتِ سعیدہ۔ سہ شنبہ۔ ۲۷ رجب المرجب۔ ۱۳۹۰ ہجری المقدس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقْوَمُ الْإِسْلَامِ

بِالْحَقِّ يَا قَوْمِ



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ كَثِيرًا كَثِيرًا

هَيْهَاتَكَ

روای ہے کہ ایک روز حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم
 مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ
 سجدہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ
 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام
 نازل ہوئے اور لافقی کیا۔ یا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 قافلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے
 کہ اس وقت میں کوئی اس وقت
 کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ
 یہاں کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ
 اس وقت میں کوئی اس وقت
 کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ

سبکِ اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

شروع ساقی نام اللہ بخشش کرنے والے ہر بیان کے

اُعِیْذُ نَفْسِیْ بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ

پناہ میں دیتا ہوں میں جان اپنی کو خدائے بلند و

الْعَظِیْمِ ○ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا

بزرگ کے اللہ نہیں کوئی سبود گمراہی

هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ

زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے نہیں پکڑتی اس

سِنَّةٌ وَّ لَا نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِی

کو اونٹ اور نہ نیند واسطے اس کے ہے جو کچھ

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ

نیچ آسمانوں کے اور جو کچھ نیچ زمین کے ہے

مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗ

کوئی ہے وہ جو سفارش کرے نزدیک اس کے مگر ساقی

اِلَّا بِاِذْنِهٖ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ

مگر اس کے کے جاننے والا جو کچھ آگے ان کے

کو سلام بھیجا ہے اس
 کہ اس وقت میں کوئی اس وقت
 کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ
 یہاں کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ
 اس وقت میں کوئی اس وقت
 کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ



یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 جس گھر میں موت پہنچ
 ہوگا اس گھر میں دیوار
 پر لکھا جائے کہ
 یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کوئی اس وقت میں کوئی
 کوئی اس وقت میں کوئی
 کوئی اس وقت میں کوئی

دوسرے صفحات اور دنیا
 سے محفوظ رہے گا یا محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی
 اس وقت میں کوئی اس وقت
 کوئی اس وقت میں کوئی
 کوئی اس وقت میں کوئی

۴۷
 دینوں کو منظور کرے گا۔
 سے بھارت اسے گا اور اس سے
 ہو گا تو اس وقت ہی اس کو توفیق
 سے پیاسے گا۔
 والوں اور تمام جیبات اور توفیق
 پہنچ کر ہی اور عینت کرنے
 (حاضر از حضور گزشتہ)
 ہمتی

بیکل روم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع ساتھ نام اللہ کے جو بخشنے والا مہربان ہے

اَعِیْذُ نَفْسِیْ بِاَللّٰهِ الْعَلِیِّ

پناہ میں دیتا ہوں میں اپنی جان کو خدائے بلند و

الْعَظِیْمِ ۝ اِذْ قَالَتْ اَمْرَاۗتُ

بزرگ کے جب کہا عورت عمران کی

عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ

نے اے میرے پروردگار تحقیق میں نے نذر کیا ہے تیرا

مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ

جو کچھ بیچ پیٹ میرے کے ہے آزاد کر پس قبول کر

مِنِّیْ ۝ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ

مجھ سے یقیناً تو ہی ہے سنے والا

الْعَلِیْمُ ۝ سَنَۃٌ مِّنْ قَدْرٍ

جاننے والا عادت اس شخص کی تحقیق

اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَّسُلِنَا وَاَوْ

بھیجا ہم نے پہلے تجھ سے پیغمبروں اپنے سے اور

چھوڑی کی قسمت سے پہلے آیا،
 اور اسے قانون کے مطابق
 تن کی سزا کا حکم پڑا پھر پانچ
 نہ متعلق پر لایا گیا۔ اور جلا
 نے حسب معمول اسی پر تیار
 چلائی، لیکن وہ اس پر تیار کہ
 نہ ہوئی پھر حکم نے اسے
 پانی میں ڈال دیا تاکہ حکم کیا



لیکن اللہ کی قدرت وہ
 پانی میں بھی ڈوبا پھر اس
 نے اسے آگ میں جلانے
 کا حکم دیا۔ لیکن آگ نے
 جو اسے نہ جلایا تب
 جو اسے نہ جلایا تب
 جو اسے نہ جلایا تب
 جو اسے نہ جلایا تب

پوچھا کہ تجھ پر
 کیا نہیں ہوتا اس نے
 لیکن ان روز تھے نہیں ہے
 بہت بیکل ہے غالباً اس کی
 نہیں کرتی تھی کوئی دیا تاکہ
 نے بہت سال دور دولت سے
 کہ چھوڑ دیا۔ اور اس وقت تک
 کو اس سے مکہ کر لینے پاس سے
 آیا۔ (بقا جعفر)
 زندہ

تَجِدُ لِسَانَنَا تَحْوِيلًا ○ أَوْ تَمِ

بادیکہ تو واسطے عادت ہماری کے تغیر کے

الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى

مسزکو وقت ڈھلنے سورج کے اندھیرے رات

عَسَقَ اللَّيْلَ وَقَرَأَانَ الْفَجْرِ إِنْ

کے تلک اور قرآن پڑھ غسر کو

قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ○ وَمِنْ

قرآن پڑھت فجر کا ہے حاضر کیا گیا اور مقوی

الْبَيْلِ فَتَجِدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

سی رات کو پس تہجد پڑھ ساتھ قرآن کے زیادتی سے واسطے

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا

تیرے سنباب ہے یہ کہ بھیجے تجھے پروردگار تیرا مقام

مَحْمُودًا ○ وَقَدْ رَّبُّ أَدْخِلْنِي

محمود میں اور کہہ اسے رب میرے داخل کر مجھ کو

مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجًا

داخل کرنا سچا اور نکال مجھ کو نکالت

صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

سچا اور کہ واسطے میرے نزدیک اپنے سے

سُلْطَنًا لَّصِيرًا ○

غلبہ مد دینے والا



رقبہ از صحرای کورستان

الروضی ای حضرت رسول

کے ادارے تہذیب و تمدن

جو اس پر مشتمل ہے

الذماتے ذماتہ وقتاً

ظاہر و باطن ہے اور

وہ حضرت علیؑ کے ہیں

سِکِلِ سَوْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع ساتھ نام اللہ بخش کرنے والے مہربان کے

اُعِیْذُ نَفْسِیْ بِاَللّٰهِ الْعَلِیِّ

پناہ میں دیتا ہوں میں اپنی جان کو خدا کے بلند

العَظِیْمِ ۝ اَمِّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا

بزرگ کے ایمان لایا پیغمبر ساتھ اس چیز کے

اَنْزَلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط

جو اتاری گئی ہے طرف اس کی رب اس کے سے اور ایمان والے

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ

ہر ایک ایمان لایا ساتھ اللہ کے اور فرشتوں اس کے کے اور

وَرُسُلِهِ ۝ وَقَدْ فَرَّقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ

کتبوں اس کی کے اور پیغمبروں اس کے کے نہیں جدا کی گاتے ہم درمیان

رُسُلِهِ ۝ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا

کسی کے رسولوں اس کے سے اور کہا انہوں نے، سنا ہم نے اور مانا

عَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

ہم نے اور بخش مانتے ہیں ہم تیری اسے رب ہمارے اور طرف تیری ہے



لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِزًّا وَوَسْعَهَا ط لَهَا

پھر آنا نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی کو مگر طاقت اسکی کے مطابق واسطے اس

مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا

کے ہے جو کچھ کمایا اس نے اور اوپر اس کے ہے جو کچھ کمایا اس نے اسے رب

لَا تَوَاخِذْنَا اِنْ لَسَيْنَا اَوْ اٰخِطَانًا

ہمارے مت پرہم کو اگر بھول گئے ہم یا احتلاک ہم نے

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا

اسے رب ہمارے اور مت دکھو اوپر ہمارے بوجھ جیسا رکھا

كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

توڑنے اس کو اوپر ان لوگوں کے کہ پہلے ہم سے تھے اسے

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَوْ طَاقَةٌ لَنَا

رب ہمارے اور مت اٹھو ہم سے وہ چیز کہ نہیں طاقت واسطے ہمارے

وَ اعْفُ عَنَّا وَ اعْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ اَنْتَ

اور معاف کر ہم سے اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر

اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَىٰ

تو ہے دوست ہمارا پس مدد سے ہم کو اوپر

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

قوم کافروں کے



سیکل چہارم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا مہربان ہے

اَعِيْذُ نَفْسِيْ بِاَللّٰهِ الْعَلِيِّ

میں پناہ میں دیتا ہوں اپنی جان کو خدا کے بزرگ

الْعَظِيْمِ ○ وَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ وَ

بلند کے اور کہہ آیا حق اور

زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ

کم ہوا باطل حقیقہ باطل تھا کم ہو جانے

زَهُوْقًا ○ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ

والا اور اتارتے ہیں ہم قرآن سے

مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

جو چیز کہ وہ شفا ہے اور رحمت واسطے ایمان والوں کے

وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلْحْسٰمًا ○

اور نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو گمراہی

وَ اِذَا اَلْعَمْنٰ عَلٰى الْاِنْسٰنِ

اور جب ہم نعمت بھیجتے ہیں اوپر انسان کے منہ پھیر



أَعْرَضَ وَنَايِبًا فِيهِ ط وَإِذَا

لیتا ہے اور دور کر لیتا ہے کر وٹ اپنی اور جب

مَسَّهُ الشَّرْكَانَ يَوْسًا ○ قُلْ

لگتی ہے اس کو برائی تو وہ نا امید ہو جاتا ہے کہہ ہر ایک

كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ط

عمل کرتا ہے اوپر طریق اپنے کے

فَرَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ

پس رب تمہارا خوب جانتا ہے اس شخص کو کہ وہ بہت

أَهْدَى سَبِيلًا ○ وَيَسْأَلُونَكَ

ہدایت پانے والا ہے راہ کو اور سوال کرتے ہیں تجھ

عَنِ الرُّوحِ ط قُلِ الرُّوحُ مِنْ

کو روح سے کہہ روح حکم پروردگار میرے

أَمْرِ مَا رَفَعْتُمْ وَمَا أُنزِلْتُمْ مِنْ

سے ہے اور نہیں دئے گئے ہو تم علم سے

الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ○

مگر تھوڑا



سکینہ پنجم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع ساتھ نام اللہ بخشنے والے مہربان کے

اَعِيْذُ نَفْسِيْ بِاَللّٰهِ الْعَلِيِّ

پناہ میں دیتا ہوں میں اپنی جان کو خدا کے بزرگ و

الْعَظِيْمِ ۝ قَالَ رَبِّ ارْنِيْ وَهَنَ

بلند کے کہا اے میرے رب تحقیق سست ہو

الْعَظْمُ مِنْيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ

کئی ہیں ہڈیاں میری اور شعلہ مارا سر نے

شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَايِكَ رَبِّ

بڑھا پلے کا اور نہ تھا میں تیرے پکارنے تیرے کے اے رب میرے

شَفِيْعًا ۝ وَاَرِنِيْ خِفْتُ الْمَوَالِيْ

پے نصیب اور تحقیق ڈرتا ہوں میں وارثوں اپنے سے

مِنْ وَّرَأَيْتُ وَاكَانَتْ اَمْرًا رِّنِيْ

تیرے میرے اور ہے عورت میری

عَاثِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ

باغھ پس بخش تو واسطے میرے اپنے پاس سے



وَلِيًّا ۝ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ

ولی کو وارث ہو میرا اور وارث ہو اولاد

يَعْقُوبَ ۝ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝

یعقوب کا اور کر دے اس کو اے رب میرے پسندیدہ

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا

البتہ محقق سچ دکھایا اللہ نے رسول ۱۴ اپنے کو خواب ساتھ

بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ

حق کے البتہ مزور داخل ہو گئے تم مسجد

الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ

حرام میں اگر چاہا اللہ نے امن سے

مُحَلِّقِينَ رُءُوسِهِمْ وَمُقَصِّرِينَ

منڈواتے ہوئے سروں انہوں کو اور کتراتے ہوئے

لَهُمْ خَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ يُلْمُوا

نہ ڈرتے ہوں گے پس جانا اللہ نے جو بھڑ جانا تم نے

وَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا

پس کی در سے اس کے فتح

تَرِيًّا ۝

تزیین



سُكِلْ شِشْم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا مہربان ہے

اَعِيْذُ نَفْسِيْ بِاَللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ○

پناہ میں دیتا ہوں میں اپنی جان کو خدا کے نزدیک و بلند کے

قُلْ اَوْحٰى اِلَيَّ اَللّٰهُ اَسْتَمِعُ نَفْرًا مِّنَ

تو کہہ کہ وحی کیا گیا ہے طرف میری تحقیق سنا ایک جماعت نے

الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ○

جنوں میں سے پس کہا انہوں نے تحقیق سنا ہم نے قرآن عجیب

يَهْدِيْ اِلَى الرُّشْدِ فَاْمَنَّا بِهِ ط و

کہہ راہ دکھاتا ہے طرف بھلائی کے پس ایمان لائے ہم اس پر اور

لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا ○ وَاِنَّهٗ لَعَلٰى جَدًّا

ہرگز نہ شریک لاویں گے ہم سنا تو رب اپنے کے کسی کو اور یہ کہ بلند ہے عزت

رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ○ وَاِنَّهٗ

رب ہمارے کی نہیں پڑھی اس نے جوڑو اور نہ اولاد اور یہ کہ کہا کرتے

كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلٰى اللّٰهِ شَطَطًا ○

تھے بیوقوف ہمارے اوپر اللہ کے زیادتی کرتے، ہوتے



سیکل مفتی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے

أَعِيذُ نَفْسِي يَا اللَّهُ الْعَلِيِّ

پناہ میں دیتا ہوں میں اپنی جان کو خدا کے بزرگ اور

الْعَظِيمِ ○ وَإِنْ يُكَادُ الَّذِينَ

بلند کے اور تحقیق نزدیک ہیں وہ لوگ کہ

كَفَرُوا أَلَيْزُ لِقَوْلِكَ يَا بَصَارِهِمْ

کافر ہوئے البتہ تکلیف پہنچا دیں تجھ کو ساتھ نظروں اپنی کے

لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ

جب سنتے ہیں ذکر اور کہتے ہیں

إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ○ وَمَا هُوَ إِلَّا

تحقیق البتہ وہ دیوانہ ہے اور نہیں وہ مگر

ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ○

ذہبیات واسطے جہانوں کے

سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعٌ عَشْرَةَ آيَةً

سورت الطارق مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی سترہ آیتیں ہیں



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع ساقف نام الشرحننے والے مہربان کے

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا

تم ہے آسمان اور رات کو آنے والے کی اور کیا

أَدْرٰکَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ

جانے تو کیا ہے رات کو آنے والا تارا ہے

الثَّاقِبُ ۝ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا

چمکتا ہوا نہیں کوئی نفس جس پر

عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝ فَلْيَنْظُرِ

چوکیدار نہ ہوں پس چاہئے کہ دیکھے

الْاِنْسَانَ مِمَّ خُلِقَ ۝ خَلِقَ

آدمی کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے پیدا کیا گیا

مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ يَخْرُجُ

ہے پانی اچھلنے والے سے نکلتا ہے

مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝ ط

ہڈیوں پیٹھ باپ کی سے اور چھاتیوں ماں کی سے

اِنَّهٗ عَلٰی رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝ ط

تحقیق وہ اوپر پھرے آنے کے البتہ قادر ہے

يَوْمَ تَبٰی السَّرَآِِرُ ۝ فَمَا لَهُ

جس دن آزمائی جائیں گی چھپی باتیں پس نہ ہوگی



مِنْ قُوَّةٍ وَ لَنَا صِرٌّ وَ السَّمَاءِ

داسطے اس کے کوئی قوت اور نہ مدد دینے والا اور قسم ہے

ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْأَرْضِ

آسمان برج والے کی اور زمین

ذَاتِ الصَّدْعِ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ

پھٹنے والی کی کہ وہ ایک بات

فَصْلٌ ۝ وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلٌ ۝

قطع ہے اور نہیں وہ بے ہودہ

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَ

تحقیق وہ کمر کھتے ہیں ایک کمرہ اور

أَكِيدُ كَيْدًا ۝ فَمَهْلِكُ الْكُفْرِينَ

میں بھی کمرہ کھتا ہوں ایک کمرہ پس ڈھیل دے کافروں کو

أَمْهَلُهُمْ رُؤْيَا ۝

ڈھیل دینا ان کو ایک مدت تک

سُورَةُ اللَّهْبِ مَكِّيَّةٌ وَ هِيَ خَمْسُ آيَاتٍ

سورہ لہب مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان رحم والا ہے

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَ

ہلاک ہو جو ابو لہب کے



تَبَّ ۞ مَا أَعْنَى عَنَّهُ مَالُهُ وَ

ہلاک ہوا نہ کفایت کیا اس سے اس کے مال نے اور

مَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ

جو پھر کما یا تھا شتاب داخل ہوگا آگن شعلے والی

لَهَبٍ ۞ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ

میں اور جو درد اس کی اٹھانے والی

الْحَطْبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ

گتھیوں کی بیج گردن اس کی کے رسی ہے

مِّن مَّسَدٍ ۞

پوست بھور کی

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَرْبَعُ اَيَاتٍ

سورہ اخلاص مکتہ میں نازل ہوئی اور اس کی چار آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۞

تردعا ساتھ نام اللہ بخشنے والے مہربان کے

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اللّٰهُ

کہہ وہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے

الصَّمَدِ ۞ لَمْ يَلِدْ ۞ وَلَمْ

احتیاج ہے نہیں بنا اس نے اور نہ

يُؤَلَّدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا

بنا گیا اور نہیں واسطے اس کے برابر کسی کو نوالا



أَحَدٌ

کوئی

سُورَةُ الْفُلُقِ الْمَدِينِيَّةِ وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ

سورہ فلق مدینہ میں اتنی اور اس کی پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع ساتھ نام اللہ بخشنے والے مہربان کے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفُلُقِ ۝ مِنْ

کہہ چناہ پکڑتا ہوں میں ساتھ پندرہ دروکار صبح کے برائی اس چیز

شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ

کی سے کہ پیدا کیا ہے اور برائی اندھیرا کرنے والی

غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ

کی سے جب چھپ جاوے اور برائی

شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝

چھونکنے والیوں کی سے بیخ گم ہوں کے

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

اور برائی حد کرنے والے کی سے جب حسد کرے

سُورَةُ النَّاسِ الْمَدِينِيَّةِ وَهِيَ سِتُّ آيَاتٍ

سورہ ناس مدینہ میں اتنی اور اس کی چھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع ساتھ نام اللہ بخشنے والے مہربان کے



قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكٍ

کہہ پناہ پکڑتا ہوں میں ساتھ پروردگار لوگوں کے بادشاہ

النَّاسِ ۝ إِلَهٍ النَّاسِ ۝

لوگوں کے مجبود لوگوں کے

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَاسِ

برائے وسوسہ ڈالنے والے

الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ

تمہیں ہٹ جانے والے کی سے جو وسوسہ ڈالتا ہے بیچ

فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ

سینوں لوگوں کے جنوں میں

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

سے اور آدمیوں سے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقْوَمَ الْإِسْلَامِ

بِالْحَيِّ يَا قَيُّوْمُ



شَشُّ قُفْلٍ

حضرت عبدالعزیز نے بیان کیا ہے کہ جو کوئی اس سحر کو پڑھے گا اور
 اس کے پانی سے دیکھے گا تو اس شخص کے دل سے
 تمام اذیت و تکلیفیں دور ہوں گی اور وہ
 اس شخص کی تمام تکلیفیں دور ہوں گی اور وہ
 اس شخص کی تمام تکلیفیں دور ہوں گی اور وہ

فصل اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع ساقی نام اللہ کے جو بچھنے والا مہربان ہے

بِسْمِ اللّٰهِ السَّمِیْعِ الْبَصِیْرِ ۝

شروع ساقی نام اللہ سننے والے دیکھنے والے کے

الَّذِیْ لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْءٌ ۝

وہ جو نہیں ہے مثل اس کی کوئی چیز اور وہ

هُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝

ہر شے کا جانتے والا ہے

بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

ساقی رحمت تیری کے اے سب سے بڑھ رحم کرنے والے

وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ

اور درود اللہ کا اوپر محمد کے اور اس

اَجْمَعِیْنَ ۝

کی آل سب پر

بیات سے محفوظ رکھو
 گا۔ اس شخص کی تمام تکلیفیں دور ہوں گی اور وہ
 اس شخص کی تمام تکلیفیں دور ہوں گی اور وہ
 اس شخص کی تمام تکلیفیں دور ہوں گی اور وہ



فصل دوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع ساتھ نام اللہ کے جو بخشنے والا مہربان ہے

بِسْمِ اللَّهِ الْخَائِقِ الْعَلِيمِ ○

شروع ساتھ نام اللہ پیدا کرنے والے جاننے والے کے

الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ○

وہ جو نہیں ہے مثل اس کے کوئی شے

وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ○

اور وہ کھولنے والا جاننے والا ہے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ○

ساتھ تیری رحمت کے اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے



فصل سوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

شروع ساقی نام اللہ کے جو بخشنے والا مہربان ہے

بِسْمِ اللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ ○

شروع ساقی نام اللہ سننے والے جاننے والے کے

الَّذِیْ لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَّ

جو نہیں ہے مثل اس کے کوئی چیز اور

هُوَ الْعَزِیْزُ الْقَدِیْرُ ○ بِرَحْمَتِكَ

وہ ہے پر وہ قدرت والا ہے ساقی تیری رحمت

يَا رَحْمَ الرَّاحِمِیْنَ ○

اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے



فصل چہارم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

شروع ساتھ نام اللہ کے جو بخشنے والا مہربان ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْكْرِیْمِ ○

شروع ساتھ نام اللہ غالب بخشش والے کے

الَّذِیْ لَیْسَ كَمِثْلِهٖ شَیْءٌ ○

وہ جو نہیں ہے مثل اس کی کوئی شے

وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْكْرِیْمُ بِرَحْمَتِكَ

اور وہ غالب بخشنے والا ہے تیرا رحمت

يَا رَحْمَ الرَّاحِمِیْنَ ○

کے ساتھ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے



قفل پنجم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

شروع ساتھ نام اللہ کے جو بخشنے والا مہربان ہے

بِسْمِ اللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ ○

شروع ساتھ نام اللہ سنتے والے جاننے والے کے

الَّذِیْ لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْءٌ ○

وہ جو نہیں ہے مثل اس کے کوئی شے

وَ هُوَ الْعَلِیْمُ الْخَبِیْرُ ○

اور وہ جاننے والا خبردار ہے

بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاحِمِیْنَ ○

تیری رحمت کے ساتھ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے



قفل ششم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع ساتھ نام اللہ کے جو بخشنے والا مہربان ہے

بِسْمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ○

شروع ساتھ نام اللہ غالب مہربان کے

الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ○

وہ جو نہیں ہے مثل اس کی کوئی شے

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ○

اور وہ غالب بخشنے والا ہے

وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ

پس اللہ ہے سب سے اچھا نگہبان اور وہ

أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ○

سب سے برکت دہن کرنے والا ہے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقْوَمُ إِلَّا اللَّهُ

يَا مَعْزُومًا



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَجْمَعِينَ

دُعَاؤُ امْنٍ

كُلِّ مَشْهُودٍ اجْعَلْ مِنْ أَمْرِي

ہر ایک حاضر کی گئی چیز کے کہ میرے معاملہ میں

فَرْجًا وَمَخْرَجًا قَدْ فِي

کشادگی اور رهایی ڈال بیج دل میرے

قَلْبِي أَنْ لَا أَرْجُوَ أَحَدًا سِوَاكَ

کے کہ نہ امید رکھوں کسی چیز کی بغیر تیرے

يَا رَحْمَ الرَّاحِمِينَ ○ اَللّٰهُمَّ يَا

اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اے اللہ! اے

دَائِمَ الْاَبَدِ الْمُخْصِيْ بِاَعْدَادِ

ہمیشہ گننے والے ہر ان گنت چیز کے

نِ الْمُقْوِي التَّفْوِسِ بِاَمْدَادِ الْمَوْلٰى

نوت دینے والے جانوں کے بغیر کسی مدد کے آقا

بِاَوْلَادِهِ الْعَزِيْزِ السَّنْدِ الْوَاحِدِ

بغیر اولاد کے قاسم سہارا تکبیر اکیل ذات

الْاَحَدِ الصَّمْدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ

میں صفات میں ہے نیاز کہ نہ اس کا

وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا

پیشا ہے اور نہ باپ اور نہ کوئی ہمسر

اَحَدًا ○ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ

اے اللہ! بچا ہمیں تمام



جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْقَضَاءِ مَا أَهْلَكَ

جلاؤں سے اور قضا سے جو ہلاک

مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ وَيَهْجِبُ الْحُمْرَاءَ

کرتی ہے شرارتِ اعداء سے اور اٹھاتی ہے غریب تفتوں کو

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ

برسی سے ہر شے کے جو پیدا کی گئی ہے درمیان زمین کے اور آسمان

بِحَقِّ خَاتِمِ سَلِيمِينَ دَاوُدَ

کے بظیفیں مہر سلیمان بن داؤد کے ان دونوں

عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَيَحِقُّ يَا تَنْخِيثًا

پر سلام ہو اور بظیفیں ان ناموں کے یا تخنیثا

يَا شَمْخِيثًا يَا مُوشَطِيثًا يَا كَهِيجًا

یا شمخینا یا موشطینا یا کہیج

يَا كَهْكِهِيجًا يَا رَبَّاهُ يَا سَيِّدَاةَ يَا

یا کہکیج اے رب اے آقا

مَوْلَاهُ يَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

اے مولا اے انتہا مقصودوں کے اے اللہ اے اللہ

يَا اللَّهُ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَا أَمَانَ

اے اللہ اے زیادرس فریادوں کے اے امن دینے

الْخَائِفِينَ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ

واے ڈرنے والوں کے اے قبول کرنے والے دعاؤں کے



يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ اسْتَجِبْ دُعَائِي

اے پورا کرنے والے حاجتوں کے مقبول کر دے میری

يَحَقِّقْ اَدَمَ صَفِيٍّ اللّٰهِ وَيَحَقِّقْ نُوحًا

بطفیل آدمؑ برگزیدہ خدا کے اور بہ طفیل نوحؑ کے

نَبِيٍّ اللّٰهِ وَيَحَقِّقْ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا

جو نبی اللہ کا ہے اور بہ طفیل ابراہیمؑ کے جو دوست اللہ کا

اللّٰهِ وَيَحَقِّقْ مُوسٰى كَلِيْمَ اللّٰهِ وَيَحَقِّقْ

ہے اور بہ طفیل موسیٰؑ کے جو کلمہ اللہ کا ہے اور بطفیل

عِيْسٰى رُوْحَ اللّٰهِ وَيَحَقِّقْ مُحَمَّدًا

عیسیٰؑ کے جو روح اللہ کا ہے اور بطفیل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے

رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَيَحَقِّقْ اِيْتَهُ مِنْ

جو رسول اللہ کا ہے اور بہ طفیل اس آیت کے کہ وہ سلیمانؑ

سَلِيْمًا وَاِيْتَهُ لِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

سے ہے اور وہ ساتھ نام اللہ بخنے والے

الرَّحِيْمِ ۝ اَلَّا تَعْلُوْا عَلٰى وَا

مہربان کے نہ سرکش کرو اوپر میرے اور

اَتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۝ وَيَحَقِّقْ جِبْرٰٓئِيْلًا

آجاؤ میرے پاس مسلمان ہو کر اور بطفیل جبرائیلؑ

وَمِيْكَائِيْلًا وَاِسْرٰٓئِيْلًا وَا

اور میکائیلؑ اور اسرائیلؑ اور



عِزِّ آيِلٍ وَبِحَقِّ حَمَلَةِ الْعَرْشِ

عزرائیل کے اور بطفیل اٹھانے والے عرش اور کرسی

وَ الْكُرْسِيِّ وَ الْكُرُوبِيِّنَ وَ الرُّوحَانِيِّنَ

کے اور نہایت معرب فرشتوں کے اور روحانیوں کے

وَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ بِحَقِّ

اور ملائکہ مقربین کے اور بہ طفیل

السَّفَرَةِ الْبُرْدَةِ وَ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ

لُفْعِ وَالے نیکو کاروں اور کراماً کاتبین کے

وَ بِحَقِّ تَوْرَةِ مُوسَى وَ انجِيلِ

اور بہ طفیل توریت موسیٰ کے اور انجیل

عِيسَى وَ زَبُورِ دَاوُدَ وَ فُرْقَانِ

عیسیٰ کے اور زبور داؤد کے اور فرقان

مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت محمد رسول اللہ کے درود اللہ کا

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

اوپر اس کے اور آل اس کی کے اور اصحاب اس کے کے اور سلام

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ○

ساتھ رحمت تیری کے اسے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقِمْ الْإِسْلَامَ

بِالْحَقِّ يَاقُوتَا



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ كَثِيرًا كَثِيرًا

دُعَايُ نَبِيِّ

۳۶
 پہنچنے والی بادلوں کے ساتھ
 اس کے منہ کے لئے منی دار
 منجاش کے قلاب اور لڑنے میں آیا
 رکھا تو عاقبت ہوا اور لڑنے میں آیا
 اور پیش باری تعالیٰ نادان ہوا اور
 لڑنے لڑنے لگا کر یا اللہ میرا کون ہے
 دیکھو اور اپنے بے لطف پر نظر
 فرما۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے
 دعا کے ذریعہ فرمایا۔ اس
 صاف کی نگاہ جب دعا کے ذریعہ
 پہنچی اس وقت اس دعا کی
 برکت سے صاف لاش کو

يَا قَدُّوسُ اَللّٰهُمَّ يَا حَمِيْدُ

اے قدوس! اے اللہ اے صاحب جمال

تَجَمَّلْتَ يَا جَمَالَ وَ الْجَمَالَ فِي

تو اپنے جمال کے ساتھ جمیل ہوا اور سب جمال تیرے جمال

جَمَالَ جَمَالِكَ يَا حَمِيْدُ اَللّٰهُمَّ

کے جمال میں ہے اے جمیل! اے اللہ!

يَا سَلَامٌ تَسَلَّمْتَ يَا سَلَامٌ وَ

اے سلامت سب میوں سے تو اپنی سلامتی ذاتی کیا

السَّلَامُ فِي سَلَامٍ سَلَامِكَ يَا

اور سالم ہے اور سب کی سلامتی تیری صفت سلامت کے سلامت

سَلَامٌ اَللّٰهُمَّ يَا صَبُوْرٌ تَصَبَّرْتَ

میں ہے اے سلام اے اللہ! اے صبور! تو اپنی صفت صبر

بِالصَّبْرِ وَالصَّبْرُ فِي صَبْرٍ

کے ساتھ صبور ہوا اور سب کا صبر تیرے صبر کی صبریت

صَبْرِكَ يَا صَبُوْرًا اَللّٰهُمَّ يَا

میں ہے اے صبور! اے اللہ! اے

مَلِيْكٌ تَمَلَّكَتْ يَا مُلْكُوْتٌ وَالْمُلْكُوْتُ

بادشاہ تو اپنی ملکوت کے ساتھ بادشاہی اور سب بادشاہیں

فِي مُلْكُوْتٍ مُلْكُوْتِكَ يَا مَلِيْكُ

تیری بادشاہت کی ملکوت میں ہیں اے بادشاہ!



نگہ نہ سکا اور اسی طرح صبر
 کو سے رہ گیا اور تا دوز
 قیامت اسی حالت سے
 رہ گیا اور اس کا کو حال
 فرستے ہیں جو کوئی اس
 دعا کو پڑھے یا اپنے پاس رکھے
 زخمی ہو تو شفا اور بہ
 وہ نقص ملامت ہو گا اور بہ
 غمزدن کا زبان سے ان میں
 رہے اور زہری اور جاوہر
 گزندوں کے اسباب سے محفوظ
 رہے اور سب سے محفوظ
 حاجت میں رہے اور جو
 دُعا رکھتا دُعا دار کے۔ چہ
 (باقی صفحہ آئندہ)

دعا رکھتا دُعا دار کے۔ چہ
 (باقی صفحہ آئندہ)

حقیقہ (از صوفی گذشتہ)
 کہ دعائے نور اپنے پاس رکھنا تھا۔
 اور جب اس کو اس کی دعا کے
 وجہ سے ملے ہیں۔ تو گزشتہ
 کے فریاد کیجئے اور کہیں گے کہ
 ہم اس دعا سے محروم رہے ہیں
 چاہیے۔ ہر ایک شخص سے اپنے
 پاس رکھے۔ اور اس کا ورد کرے
 کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت
 نازل کرے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ

مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ -
 اَلرَّحْمٰنِ وَرَحْمَتِ عَالَمِیْنَ

اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیْمِ - اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیْمِ
 قَلَمٌ جَدِّدٌ لِّمُتَّقِیْنَ - اَلرَّحْمٰنِ

لِیَجْعَلَ لَکُمُ الْفُرْقَانَ
 لَیْسَ بَیْنَہُمْ وَبَیْنَہُمْ اِلَّا
 فُرْقَانٌ اَوَّلِیْنَ وَآخِرِیْنَ یَعْلَمِیْنَ

فُرْقَانٌ اَوَّلِیْنَ وَآخِرِیْنَ
 تَوْجِیْہِ اِسْمِ دَعَا کِی شَرْح
 تَرْتِیْلُو سَکِیْنِ - اِسْمِ دَاسِطِ

تَرْتِیْلُو سَکِیْنِ - اِسْمِ دَاسِطِ
 شَرْحِ اِسْمِ کِی طَوَّلَافِیْہِ



لَیْسَ بَیْنَہُمْ وَبَیْنَہُمْ اِلَّا
 فُرْقَانٌ اَوَّلِیْنَ وَآخِرِیْنَ
 یَعْلَمِیْنَ

یَعْلَمِیْنَ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ
 بِرَحْمَتِکَ وَرَحْمَتِ عَالَمِیْنَ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ
 بِرَحْمَتِکَ وَرَحْمَتِ عَالَمِیْنَ
 وَرَحْمَتِ عَالَمِیْنَ

اَللّٰهُمَّ يَا شَاهِدُ تَشْهَدُتْ بِاَلشَّهَادَةِ

اے اللہ اے گواہ! تو گواہ ہے اپنی صفت شہادت سے

وَ اَلشَّهَادَةُ رَفِیْ شَہَادَةِ شَہَادَتِکَ

اور سب گواہی تیری شہادت کہ شہادتوں میں ہے

یَا شَاهِدُ اَللّٰهُمَّ يَا قَرِیْبُ لَقَرِیْبَتِ

اے شاہد! اے اللہ اے نزدیک توہ نزدیک ہے

یَا لِقَرِیْبٍ وَ اَلْقَرِیْبُ فِیْ قَرِیْبٍ قَرِیْبٍ

سب سے اپنی صفت قریب کے ساتھ اور سب نزدیک تیرے قریب کی زونہی

یَا قَرِیْبُ اَللّٰهُمَّ يَا نَصِیْرُ تَنْصُرْتِ

میں ہے اے قریب! اے اللہ اے مددگار تو مددگار ہے

یَا لِنَصْرَةٍ وَ اَلنِّصْرَةُ فِیْ نَصْرَةٍ

اپنی صفت نصرت کے ساتھ اور سب مدد تیری نصرت کی

نَصْرَتِکَ يَا نَصِیْرُ اَللّٰهُمَّ يَا سَتَّارُ

نصرت میں ہے اے نصیر! اے اللہ! اے پردہ پوش

تَسْتَرِیْتِ يَا لَسْتَرٍ وَ اَلسَّتْرُ فِیْ سَتْرٍ

تو نے پردہ پوشی کی اپنی صفت ستاری سے اور سب پردہ پوشی تیری صفت

سَتْرِکَ يَا سَتَّارُ اَللّٰهُمَّ يَا قَهَّارُ

ستاری کی پردہ پوشی میں ہے اے ستار! اے اللہ! اے بباد و وائے

تَقَهَّرْتِ يَا قَهْرٍ وَ اَلقَهْرُ فِیْ قَهْرٍ

تو تار ہے اپنی صفت قہر کے ساتھ اور سب بباد و تیرے قہر کے

قَهْرُ قَهْرِكَ يَا قَهَّارًا اللَّهُمَّ يَا

وہا دُ میں ہیں رہیں اے تمہارا ! اے اللہ ! اے

رِزْقًا تَرِزُقْتَهُ بِالرِّزْقِ وَالرِّزْقِ

روزمی رساں تو روزمی پہنچاتا ہے اپنے رزق سے اور سب روزمی تیرے

فِي رِزْقِ رِزْقِكَ يَا رِزَّاقُ اللَّهُمَّ

رزق کی چیزیں ہیں ہے اے روزمی رساں اے اللہ !

يَا خَلَّاقُ تَخَلَّقْتَ يَا خَلِّقُ وَالْخَلْقِ

اے پیدا کرنے والے تو نے پیدا کیا ہے اپنی صفت خلق کے ساتھ اور سب

فِي خَلْقِ خَلْقِكَ يَا خَلَّاقُ اللَّهُمَّ

خلق تیری خالقیت کی پیدائش میں ہے اے خلاق ! اے اللہ

يَا فَتَّاحُ تَفْتَحُتُ بِالْفَتْحِ وَالْفَتْحِ

اے فتاح ! تو نے کھولا اپنی فتح کے ساتھ اور سب کشائش

فِي فَتْحِ فَتْحِكَ يَا فَتَّاحُ اللَّهُمَّ يَا

تیری فتح کی کشائش میں ہے اے فتاح ! اے اللہ اے

رَفِيعُ رَفَعْتَ بِالرَّفْعَةِ وَالرَّفْعَةِ

بلند تو نے بلند کیا اپنی رفعت کے ساتھ اور سب بلندی

فِي رَفْعِ رَفْعِكَ يَا رَفِيعُ اللَّهُمَّ

تیری رفعت کی بلندی میں ہے اے رفیع ! اے اللہ !

يَا حَفِظُ تَحْفَظُتُ بِالْحِفْظِ وَالْحِفْظِ

اے نگہبان تو نے نگہبانی کی اپنی صفت حفاظت کے ساتھ اور



فِي حِفْظِ حِفْظِكَ يَا حَفِيفُ اللَّهُمَّ

سب نگہبانی تیری صفت حفظ کی نگہبانی میں ہے اے حفیظ! اے اللہ!

يَا مُفْضِلُ تَفَضَّلْتَ بِالْفَضْلِ وَالْفَضْلُ

اے صاحب فضل تو نے فضل کیا اپنی صفت فضل کے ساتھ اور سب بزرگی

فِي فَضْلِكَ يَا مُفْضِلُ اللَّهُمَّ

تیرے فضل کی بزرگی میں ہے اے بزرگی والے! اے اللہ!

يَا وَاصِلُ تَوَصَّلْتَ بِالْوَصْلِ وَالْوَصْلُ

اے ملانے والے تو نے ملایا سب کو ملاپ کے ساتھ اور سب ملاپ

فِي وَصْلِكَ يَا وَاصِلُ اللَّهُمَّ

تیرے وصل کے طلب میں ہے اے ملانے والے! اے اللہ!

يَا لَطِيفُ تَلَطَّفْتَ بِاللَّطْفِ وَاللَّطْفُ

اے لطیف تو نے لطف کیا اپنے لطف کے ساتھ اور سب لطف تیری

فِي لُطْفِكَ يَا لَطِيفُ اللَّهُمَّ يَا

باریکسا بینی کے لطف میں ہے اے لطیف! اے اللہ! اے

قَابِضُ قَبَضْتَ بِالْقَبْضِ وَالْقَبْضُ فِي

قابض تو نے قبض کیا قبض کے ساتھ اور سب قبض تیرے

قَبْضِكَ يَا قَابِضُ اللَّهُمَّ يَا

قبض کے تھپے میں ہے اے قابض! اے اللہ! اے

عَفَا عَفَرْتَ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْمَغْفِرَةُ

بخشنے والے تو نے بخش دیا اپنی بخشش کے ساتھ اور سب مغفرت



فِي مَغْفِرَةٍ مَّغْفِرَتِكَ يَا عَفَّارُ اللَّهُمَّ

تیری مغفرت کی بخشش میں ہے اے عفار! اے اللہ!

يَا حَبِيبًا رَجَبُوتَ بِالْحَبْرُوتِ وَالْجَبْرُوتِ

اے لڑھے ہوئے کے جوڑنے والے تو نے خستہ کو جوڑ دیا اپنی صفت جبروت کے ساتھ

فِي جَبْرُوتِ حَبْرُوتِكَ يَا حَبَّارُ اللَّهُمَّ

اور سب جبروت تیری صفت جبروت میں ہے اے جبار! اے اللہ!

يَا سَمِيعُ سَمِعْتَ يَا لَسْمِعَ وَ

اے سنے والے! تو نے سنا اپنی صفت سمع سے اور

السَّمْعُ فِي سَمِعِ سَمِعِكَ يَا سَمِيعُ

سب سنا تیری صفت سمع کی بدولت ہے اے سمیع!

اللَّهُمَّ يَا كَبِيرُ تَكَبَّرْتَ يَا لِكَبْرِيَاءِ

اے اللہ! اے سب سے بڑے تو (سب سے) بڑا ہوا اپنی صفت

وَالِكَبْرِيَاءِ فِي كَبْرِيَاءِ كَبْرِيَاءِكَ

کبریاہی سے اور سب کبریاہی تیرے صفت کبریاہی میں ہے

يَا كَبِيرُ اللَّهُمَّ يَا كَرِيمٌ تَكَرَّمْتَ

اے کبیر! اے اللہ! اے کرم کرنے والے تو بزرگ ہوا

يَا تَكْرَمٌ وَانْتَكْرَمَ فِي كَرَمِ

اپنی ذاتی بزرگی سے اور سب بزرگی تیری صفت کرم میں

كَرَمِكَ يَا كَرِيمُ اللَّهُمَّ يَا

ہے اے کریم! اے اللہ! اے



رَحِيمٌ تَرَحَّمْتَ بِالرَّحْمِ وَالرَّحْمُ

رحم کرنے والے تو نے رحم کیا اپنے رحم کے ساتھ اور سب ہر زبانیں

فِي رَحْمِ رَحْمَتِكَ يَا رَحِيمٌ

تیری صفت رحمت کی بدولت ہیں اے رحیم!

اللَّهُمَّ يَا مَجِيدُ تَسْجُدُ

اے اللہ! اے بڑی شان والے تو بزرگ ہوا

بِالسُّجُودِ وَالسُّجُودُ فِي مَجْدِ

اپنے مجد سے اور سب شان تیری صفت مجد

مَجْدِكَ يَا مَجِيدُ يَا مَجِيدُ يَا اللَّهُ

میں ہے اے مجید! اے مجید! اے قبول کرنے والے دعاؤں کے

يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا حَيُّ

اللہ! اے رحمان! اے رحیم! اے زندہ!

يَا حَلِيمٌ يَا عَزِيزٌ يَا نُورَ النُّورِ

اے بردبار! اے غالب! اے روشن کرنے والے نور

يَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

کے! اے وہ ذات جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے میں نے اسی پر

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

مجھ سے کیا اور وہ پروردگار ہے عرش بڑے کا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَهَّابِ سُبْحَانَ

سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جو بھنسنے والا پاک ہے بڑی



التَّجِيدِ سُبْحَانَ الصَّبُورِ سُبْحَانَ

شان والا پاک ہے بڑی برداشت والا پاک ہے

الْبَصِيرِ سُبْحَانَ الْمَالِعِ سُبْحَانَ

سب کو دیکھنے والا پاک ہے روکنے والا پاک ہے

الْقَيُّومِ سُبْحَانَ الْكِرِّ سُبْحَانَ

سب کو قائم رکھنے والا پاک ہے بھلائی کرنے والا پاک ہے

التَّعَارَفِ سُبْحَانَ الْأَوَّلِ سُبْحَانَ

عاقبت دینے والا پاک ہے سب سے پہلا پاک ہے

الْمُعْزِزِ سُبْحَانَ الظَّاهِرِ سُبْحَانَ

عزت دینے والا پاک ہے ظاہر پاک ہے

الشَّافِي سُبْحَانَ الْكَافِي سُبْحَانَ

شفا دینے والا پاک ہے کفایت کرنے والا پاک ہے

السَّلَامِ سُبْحَانَ الْمُؤْمِنِ سُبْحَانَ

سب پیروں سے سلامت پاک ہے سب کو امن دینے والا پاک ہے

الْمُهَيِّمِ سُبْحَانَ الْمُصَوِّرِ

سب کا نگیبان پاک ہے صورت بنانے والا

سُبْحَانَ الثَّائِرِ سُبْحَانَ

پاک ہے مددگار پاک ہے

الْوَّاحِدِ سُبْحَانَ الْأَحَدِ

اکیلا پاک ہے یگانہ



سُبْحَانَ الْفَرْدِ سُبْحَانَ

پاک ہے پاک ہے

الرَّحِيمِ سُبْحَانَ الْمَوْجِرِ سُبْحَانَ

رہم کرنے والا پاک ہے پیچھے کرنے والا پاک ہے

الْمُقَدِّمِ سُبْحَانَ الضَّارِّ سُبْحَانَ

آگے کرنے والا پاک ہے نقصان پہنچانے والا پاک ہے

النُّورِ سُبْحَانَ الْهَادِي سُبْحَانَ

نور پاک ہے ہدایت کرنے والا پاک ہے

الْمُقَدِّرِ سُبْحَانَ الْجَلِيلِ

تقدیر کرنے والا پاک ہے صاحب جلال

سُبْحَانَ الْمَجِيدِ سُبْحَانَ

پاک ہے بڑی شان والا پاک ہے

الرَّزْقِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ

نگہبان پاک ہے اللہ اور سب

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا

تو یقیناً اللہ کے واسطے ہے اور ہمیں کوئی لائق عبادت کے

اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ

مگر اللہ اور اللہ سب سے بڑا ہے اور ہمیں پھرنا ہر

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ

سے اور نہ طاقت بھلائی کی مگر ساتھ اللہ کے جو برتر ہے



قَدْ وَسَّ رَابُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

ہے پروردگار ہے فرشتوں کا اور روح کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ

ہیں کوئی لائق پرستش کے مگر اللہ تنہا ہے جس کا کوئی شریک

لَهُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

ہیں اور واسطے اسی کے راج ہے اور سب تعریف واسطے اللہ کے

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا اللَّهُ

ہے اور وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے اے اللہ

يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

اے رحمن! اے رحیم! اے زندہ اے سب کے قائم رکھنے

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا نُورَ

والے اے صاحب بزرگی اور عزت کے اے روشن کرنے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا لَأَلِ اللَّهِ

دالے آسمانوں کے اور زمین کے اے وہ ذات کبر کوئی

إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ

بندگی کے لائق نہیں مگر تو میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تو

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ

رب ہے بڑے عرش کا اے اللہ!

اعْفُرْ لِي بِحُرْمَةِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ

بخش دے مجھے ان ناموں کی عزت کے طفیل اور



قَدْ وَسَّ رَابَّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

ہے پروردگار ہے فرشتوں کا اور روح کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ

ہیں کوئی لائق پرستش کے مگر اللہ تنہا ہے جس کا کوئی شریک

لَهُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

ہیں اور واسطے اسی کے راج ہے اور سب ترین واسطے اللہ کے

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا اللَّهُ

ہے اور وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے اے اللہ!

يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

اے رحمن! اے رحیم! اے زندہ اے سب کے قائم رکھنے

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا نُورَ

والے اے صاحب بزرگی اور عزت کے اے روشن کرنے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا لَا إِلَهَ

دائے آسمانوں کے اور زمین کے اے وہ ذات کہ کوئی

إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ

بندگی کے لائق نہیں مگر تو میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تو

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَللَّهُمَّ

رب ہے بڑے عرش کا اے اللہ!

اعْفِرْ لِي بِحُرْمَةِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ

بخش دے مجھے ان ناموں کی عزت کے طفیل اور



وَاصْرِفْ عَنِّي الضَّرَّاءَ وَالْبَلَاءَ

پھیر مجھ سے دکھ اور مصیبت

وَالْهُمُومَ وَالْغُمُومَ وَجَمِيعَ الْأَفَاتِ

اور فکر اور غم اور سب آفتیں

وَمِنَ أَوْلَادِي وَأَبَائِي وَأُمَّهَاتِي

اور اولاد میری سے اور میرے باپ دادوں سے اور میری ماؤں

وَأَقْرَبَائِي وَعَشِيرَتِي فَإِنَّ

اور سب رشتہ داروں اور کنہ سے کیونکہ تجھ پر ہی

عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ اعْتِمَادِي

ہے سب کاموں میں میرا بھروسہ

وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُولِ

اور درود اور سلام اور رسول

خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بہترین خلق اس کی کے (جن کا نام پاک محمد ہے)

وَأِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اور ان کی سب آل پر اور تمام اصحاب پر تیری رحمت

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

سے اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ مہربان



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَقَدْ آتَى الْإِسْلَامَ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَسَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى كَثِيرٍ كَثِيرٍ مِنْ أُمَّةٍ بَدَأَ

دُعَاؤُكُمْ بِجَمِيلَةٍ

تعبیہ
از صفحہ گذشتہ
رکعتوں اور کئی اس کے

یک دفعہ پڑھے یا پس لکے
تقیات کے دن پھر اس کے
گذر کر داخل جنت ہوگا۔ پھر
کہا۔ یا رسول اللہ! ڈراؤ
اپنی امت کو دوزخ کے خوف
سے، فضیلت اس دعا کی کہ
بیان کروں، تو تمام خلقت
مازروزہ چھوڑے اور جو
کوئی اس دعا کو پڑھے، یا
کوئی اس دعا کو پڑھے، اس پر جاؤ
لینے پاس رکے، اور وہ جنت
اثر کرے۔ اور وہ کوئی اس دعا
ہوں۔ اور جو کوئی اس دعا
پڑھے۔ یا اپنے پاس لکے
متر اس کا قیامت کے دن

مُتَعَالِي يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا	سب سے برتر	اے اللہ	اے مہربان	اے
اللَّهُ يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا	اللہ	اے نہایت رحم والے	اے اللہ	اے
حَلِيمُ يَا اللَّهُ يَا عَلِيمُ	علم والے	اے اللہ	اے خبر دار	
يَا اللَّهُ يَا كَرِيمُ يَا اللَّهُ	اے اللہ	اے نہایت کرم کرنے والے	اے اللہ	
يَا جَلِيلُ يَا اللَّهُ يَا مَجِيدُ	اے بزرگی	اے اللہ	اے صاحب بزرگی کے	
يَا اللَّهُ يَا حَكِيمُ يَا اللَّهُ يَا	اے اللہ	اے حکمت والے	اے اللہ	اے
مُقْتَدِرُ يَا اللَّهُ يَا عَفُورُ يَا	ظاہر قدرت والے	اے اللہ	اے بخشنے والے	اے
اللَّهُ يَا عَفَا يَا اللَّهُ يَا	اللہ	اے گناہ بخشنے والے	اے اللہ	اے
مُبْدِي يَا اللَّهُ يَا رَافِعُ يَا	ہیسا کرنے والے	اے اللہ	اے بلند کرنے والے	اے
اللَّهُ يَا شَكُورُ يَا اللَّهُ يَا	اللہ	اے قدر دان	شکر کرنے والوں کے	اے اللہ



انند پانڈے کے روشن ہو گیا اور
تفصیلاً نماز کا تقاریر اور
سفر میں نماز کی سستی نہ ہوگی
اور دن قیامت کے جو وقت
لکھے گا۔ تو سخت خوشی کے
کی۔ یہ کہنا نہیں ہے۔ حق
قہار فرمایا۔ کیونکہ ہمیں
اس شخص نے دیا تھا اس
کو صدق دلی سے اور رحمت
سبب سے یہ نعمت اور دن
اس کے لئے ہے۔ اور دن
قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو
جنت میں داخل کرے گا۔
اور وہ دعا مزید ہے۔
یا حبیب یا اللہ یا توبہ
یا اللہ یا حبیب یا اللہ
یا اللہ یا اللہ...

خَبِيرُ يَا اللَّهُ يَا بَصِيرُ يَا

جردار اے اللہ اے دیکھنے والے اے

اللَّهُ يَا سَمِيعُ يَا اللَّهُ يَا

اللہ اے سننے والے اے اللہ اے

أَوَّلُ يَا اللَّهُ يَا آخِرُ يَا

اول اے اللہ اے آخر اے

اللَّهُ يَا ظَاهِرُ يَا اللَّهُ يَا بَاطِنُ

اللہ اے ظاہر اے اللہ اے باطن

يَا اللَّهُ يَا قَدَّوسُ يَا اللَّهُ يَا

اے اللہ اے پاکیزہ بڑے معنوں والے اے اللہ اے

اللَّهُ يَا سَلَامٌ يَا اللَّهُ يَا مُهَيِّمٌ

اے اللہ اے سلامتی والے اے اللہ اے نجات

يَا اللَّهُ يَا عَزِيزٌ يَا اللَّهُ يَا

اے اللہ اے زبردست اے اللہ اے

مُتَكَبِّرٌ يَا اللَّهُ يَا خَالِقُ يَا

عظمت والے اے اللہ اے پیدا کرنے والے اے

اللَّهُ يَا وَدِيُّ يَا اللَّهُ يَا مُصَوِّرُ

اللہ اے ولی اے اللہ اے صورت بنانے والے

يَا اللَّهُ يَا جَبَّارٌ يَا اللَّهُ يَا

اے اللہ اے زبردست اے اللہ اے



حَيُّ يَا اللَّهُ يَا قَيُّوْمُ يَا اللَّهُ

ہمیشہ جینے والے اے اللہ اے ہمیشہ قائم رہنے والے اے اللہ

يَا وَتَابِضُ يَا اللَّهُ يَا بَاسِطُ

اے تنگ کندہ اے اللہ اے فراخ کندہ روزی کے

يَا اللَّهُ يَا مَذِلُّ يَا اللَّهُ يَا

اے اللہ اے ذلت دینے والے اے اللہ اے

قَوِيُّ يَا اللَّهُ يَا شَهِيدُ يَا

قوت دینے والے اے اللہ اے حاضر اے

اللَّهُ يَا مُعْطِيُّ يَا اللَّهُ يَا مَانِعُ

اللہ اے عطا کرنے والے اے اللہ اے ہٹانے والے

يَا اللَّهُ يَا خَافِضُ يَا اللَّهُ يَا

اے اللہ اے ہٹ کرنے والے اے اللہ اے

سَافِعُ يَا اللَّهُ يَا وَكِيْلُ يَا

بلند کرنے والے اے اللہ اے کار ساز اے

اللَّهُ يَا كَافِيْلُ يَا اللَّهُ يَا

اللہ اے کفایت کرنے والے اے اللہ اے

ذَا الْحَلَالِ وَالْكَرَامِ يَا

صاحب بزرگی اور بخشش کے اے

اللَّهُ يَا سَرِيْدُ يَا اللَّهُ يَا

اللہ اے رہنما اے اللہ اے



اللَّهُ يَا صَبُورُ يَا اللَّهُ يَا فَتَّاحُ

اللہ اے بردبار اے اللہ اے کھولنے والے

يَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اے اللہ نہیں کوئی مسبود مگر تو

سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

پاک ہے تجھ کو تحقیق تھا میں ظالموں

الظَّالِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

میں سے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی ہو

عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدًا

ادب بہترین خلق کے جو نام ان کا محمد ہے

وَأَلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اور ان کی آل اور ان کے اصحاب سب پر

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ هـ

تیری رحمت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے!



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَقِيَ الْإِلَهَ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ



دُعَاؤُكَ عَكَّاشَةٌ

دعا کے عکاشہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو مہربان بہنایت رحم والا ہے

اَللّٰهُمَّ يَا كَثِيْرَ التَّوَالٍ وَ

اے اللہ اے بہت بخشش والے اور

يَا دَاۤءِمَ الْوُصَالِ وَيَا اَحْسَنَ

اے ہمیشہ ملنے والے اور اے بہت اچھے

الْفِعَالِ اَللّٰهُمَّ اِنْ دَخَلَ

کام کرنے والے اے اللہ اگر تیری نسبت

الشَّكُّ فِيْ اِيْمَانِيْ بِكَ

میرے ایمان میں کوئی شک واقع ہو

وَلَمْ اَعْلَمْ بِهٖ ثُبْتُ عَنْهٗ

اور اس کو میں نہیں جانتا اس سے تو بہر کرنا ہوں

وَ اَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

اور کہتا ہوں لا الہ الا اللہ

مُحَمَّدًا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ

محمد رسول اللہ اے اللہ



إِنْ دَخَلَ الْكُفْرُ فِي إِسْلَامِي

اگر تیری نسبت میرے اسلام میں

بِكَ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ تَبِتْ

کفر واقع ہو اور میں اس کو نہیں جانتا میں اس سے توبہ کرتا ہوں

عَنْهُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا

اور کہتا ہوں لا الہ الا

اللَّهُ مُحَمَّدًا رَّسُولَ اللَّهِ ط

اللہ محمد رسول اللہ ط

أَللَّهُمَّ إِنْ دَخَلَ الشُّكُّ فِي

اے اللہ اگر تیری توجید میں

تَوْحِيدِي إِيَّاكَ وَلَمْ

مجھ کو شک ہو اور میں

أَعْلَمْ بِهِ تَبِتْ عَنْهُ وَ

اس کو نہیں جانتا اس سے توبہ کرتا ہوں اور

أَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا

کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد

رَّسُولَ اللَّهِ ط أَللَّهُمَّ إِنْ

رسول اللہ اے اللہ اگر

دَخَلَ الْعُجْبُ وَالْكِبْرُ وَالرِّيَاءُ

تیری عبادت میں تکبر اور غرور اور ریاکاری



وَالسَّمْعَةَ فِي عَمَلِي بِكَ وَلَمْ

اور نمائش میرے کسی عمل میں واقع ہوئی ہو اور میں

أَعْلَمُ تَبَّتْ عَنْهُ وَأَقُولُ

نہیں اس کو جانتا اس سے توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ

لا الہ الا اللہ محمد رسول

اللَّهُ ط اللَّهُمَّ إِنْ دَخَلَ الْكَذِبُ

اللہ اے اللہ اگر میری زبان پر جھوٹ

وَجَرَى الْغَيْبَةِ عَلَيَّ لِسَانِي

اور غیبیت آئی ہو اور میں

وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ تَبَّتْ

اس کو نہیں جانتا اس سے توبہ کرتا

عَنْهُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا

ہوں اور کہتا ہوں لا الہ الا

اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ط

اللہ محمد رسول اللہ

اللَّهُمَّ إِنْ دَخَلَ الْخَطَرَاتُ

اے اللہ اگر خطرات

وَالْوَسْوَسَةَ فِي صَدْرِي

اور دوسے تیری نسبت میرے دل میں آئے ہوں



إِيَّاكَ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ ثُبْتُ

اور میں نہیں جانتا اس سے توبہ کرتا

عَنْهُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ہوں اور کہتا ہوں لا الہ الا اللہ

مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ

محمد رسول اللہ اے اللہ

إِنْ دَخَلَ التَّشْبِيهُ فِي مَعْرِفَتِي

اگر میرے دل میں تیری معرفت میں کسی سے مشابہت

بِكَ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ ثُبْتُ عَنْهُ

واجب ہو اور میں نے خبر نہیں لی اس سے توبہ کرتا ہوں

وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا

اور کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد

رَّسُولُ اللَّهِ

رسول اللہ اے اللہ جو میرے کام میں

عَلَيَّ مِنْ أَمْرِي فَلَمْ أَرْضَهُ

تو نے مقدر کیا اور میں اس سے راضی نہیں ہوا اور

وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ ثُبْتُ عَنْهُ

مجھے اس کی خبر نہیں توبہ کرتا ہوں اس سے اور

وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا

کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد



رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ مَا أُنْعَمْتُ

رسول اللہ ﷺ اے اللہ تو نے جو کچھ مجھ پر مہربانی

عَلَيَّ فَعَصَيْتُ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ

کی اور میں نے نافرمانی کی اور میں اس کو نہیں جانتا اس سے

سُبْتُ عَنْهُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا

توہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں لا الہ الا اللہ

اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ

محمد رسول اللہ ﷺ اے اللہ

مَا أَتَيْتَنِي مِنْ نِعْمَاتِكَ فَغَفَلْتُ

تو نے مجھے عنایت کی اپنی نعمتوں سے اور میں تیرے

عَنْ شُكْرِكَ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ

شکر سے غافل ہوا اور میں اس سے بے خبر ہوں اس سے

سُبْتُ عَنْهُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا

توہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں لا الہ الا اللہ

اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ

محمد رسول اللہ ﷺ اے اللہ

مَا وَلَّيْتَنِي مِنَ الْأَيَّامِ فَلَمْ

جرمجھ کو جس دنوں سے مجھے دیا اور میں اس کا

أُوَدِّحَقِّقَهُ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ

حق ادا نہیں کر سکا اور میں اس سے بے خبر ہوں اس سے



تُبْتُ عَنْهُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں لا الہ الا اللہ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ مَا

محمدؐ رسول اللہ اے اللہ جو

مَنْنْتَ بِهِ عَلَيَّ مِنَ الْحُسْنَى فَلَمْ

کچھ نیکیوں سے تو نے مجھ پر احسان کیا اور میں تیری

أَحْمَدُكَ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ تَبْتُ

تسلیت نہیں کر سکا اور میں اس کو نہیں جانتا اور میں توبہ کرتا ہوں

عَنْهُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور کہتا ہوں لا الہ الا اللہ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ مَا

محمدؐ رسول اللہ اے اللہ جو کچھ میں

هَيَّبْتُ مِنْ عَمْرِي بِنَا لَمْ تَرْضَ

ضائع کر چکا ہوں اپنی عمر میں اس چیز سے کہ تو اس سے صراحتاً منی نہیں

بِهِ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ تَبْتُ عَنْهُ وَ

اور میں اس سے بے خبر ہوں اس سے توبہ کرتا ہوں اور

أَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمدؐ

رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ مَا أَوْجِبْتَ

رسول اللہؐ اے اللہ جو کچھ واجب کر دیا تو نے



عَلَىٰ مِنَ النَّظْرِ فَبِكَ فَعَمَضْتُ وَ

مجھ پر تیری ذات میں سوچنے کی لذت میں نے چشم بندی کی اور

لَمْ أَعْلَمْ بِهِ تَبْتُ عَنْهُ وَأَقُولُ

میں اس کو نہیں جانتا توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

اللَّهُمَّ مَا قَصَرْتُ أَمْلِي فِي رِجَائِكَ

اے اللہ جو کچھ میں نے اپنی ہمت میں تیری امید دلانے پر

مِنكَ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ تَبْتُ عَنْهُ

کوتاہی کی اور میں اس کو نہیں جانتا اس سے توبہ کرتا ہوں

وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

اور کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد

رَّسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ مَا أَعْهَدْتُ

رسول اللہ اے اللہ جس کو میں نے تیرے سامعیتوں

عَلَىٰ سِوَاكَ فِي الشَّدَائِدِ وَلَمْ

میں کام آنے والا سمجھا ہو اور میں

أَعْلَمْ بِهِ تَبْتُ عَنْهُ وَأَقُولُ لَا

اس کو نہیں جانتا اس سے توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں لا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ



اَللّٰهُمَّ اِنْ اَسْتَعَنْتُ مِنْ غَيْرِكَ

اے اللہ اگر تیرے سوا میں نے مصیبتوں میں مدد

فِي التَّوَابِیْبِ وَلَمْ اَعْلَمْ بِهٖ تَبَّتْ

جا ہی ہو کسی سے اور میں اس کو نہیں جانتا اس سے توبہ

عَنْهُ وَاَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ

کہتا ہوں اور کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد

رَسُوْلُ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنْ زَلَّتْ قَدَمِيْ

رسول اللہ اے اللہ اگر میرے قدم

فِيْ صِرَاطٍ مِّنْ غَيْرِكَ وَلَمْ اَعْلَمْ

پھل کر تیرے سوا کسی اور جانب گیا ہو اور میں اس کو نہیں جانتا

بِهٖ تَبَّتْ عَنْهُ وَاَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا

اسی سے توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں لا الہ الا

اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ مَا

اللہ محمد رسول اللہ اے اللہ جو کچھ

اَصْلَحْتَ سَيِّئَاتِيْ بِفَضْلِكَ فَرَأَيْتَهُ

تو نے اپنے فضل سے میری برائیوں کو درست کیا ہو اور میں

مِنْ غَيْرِكَ وَلَمْ اَعْلَمْ بِهٖ تَبَّتْ عَنْهُ

اسکو تیرے سوا سمجھتا ہوں اور میں اس کو نہیں جانتا اس سے توبہ کرتا

وَاَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ

ہوں اور کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ



اللَّهُ يَا سَحِي يَا قَيُّومُ يَا لَإِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اے زندہ رہنے والے اے قائم رہنے والے اے وہ ذات کہ نہیں کوئی مسبود

سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجِبْنَا

مگر تو پاکی ہے تجھ کو سچیتو تھا میں ظالموں میں سے پس ہم نے اپنے بندے کی

لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي

دعا قبول کی اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی اور اسی طرح نجات دیتے

الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ

ہیں ہم ایمان والوں کو اور جب پکارا (حضرت) زکریا (علیہ السلام) نے اپنے رب

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ

کو۔ اے میرے رب مجھ کو ایسا نہ چھوڑ اور تو بہترین

الْوَارِثِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

دارتوں کا ہے اور درود اللہ تعالیٰ کا ہے

عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

اوپر بہترین مخلوق کے کہ ان کا اسم شریف محمد ہے اور ان کی آل

وَاصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ أَجْمَعِينَ

اور ان کے یاروں اور بیویوں سب پر

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ○

تری مہربانی سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے!



مناجاء از حضرت خواجہ اولیس قرنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام جو بڑا مہربان بہنایت رحم والا ہے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ قَلْبِیْ مَرِیضٌ فَصَحِّحْهُ

اللہ اے اللہ بے شک میرا قلب بیمار ہے پس اس کو تندرست کر

وَفَاسِدٌ فَاصْلِحْهُ وَمُظْلَمٌ

اور گمراہ ہے پس اس کو درست کر دے اور تاریک ہونے والا ہے

فَنَوِّرْهُ وَعَنِّیْ قَبْضَہُ وَدَسِیْسٌ

پس اس کو روشن کر دے اور انڈھا ہے پس اس کو بینائی دے اور ناپاک

فَطَهِّرْہُ وَخَرَابٌ فَاعِیْرْہُ یَا

ہے پس اس کو پاک کر دے اور ناقص ہے پس اس کو درست کر دے

اَرْحَمَ الرَّحِیْمِ ۝

اے بڑے رحم کرنے والوں کے رحم کرنے والے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَقَوْا إِلَّا اللَّهُ

يَا مَعْشَرَ قَوْمٍ



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى الْاٰلِیِّیْنَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ

وَسَلِّ وَسَلِّمْ كَثِيْرًا كَثِيْرًا اَبَدًا اَبَدًا

دُعَاۃُ مَعْنٰی

لقبہ از صفہ گذشتہ
 بلاغہ جس قدر بیکے بعد از
 غیر ہے۔ لیکن بہتر ہے
 تعداد پڑھنے کا قدر زکوٰۃ اور
 ایک ہزار ایک سو تیرا روز
 ہے۔ اور پڑھنے والے
 کو کئی چیز چاہی نہ ہو۔ اور
 ترک جو آفات بھی ضروری
 ہے۔ اور اس کے فوائد اور
 منافع تو زیادہ تر ہے
 خارج ہیں۔ فقط

فَقَيْدِكَ بِبَارِكٍ سَأَيْلُكَ بِبَارِكٍ

قید تیرا ہوں تیرے دروازے پر مانگنے والا تیرا ہوں تیرے دروازے پر

ذَلَيْلِكَ بِبَارِكٍ أَسِيرُكَ بِبَارِكٍ

تیرا ذلیل ہوں تیرے دروازے پر تیرا قیدی ہوں تیرے دروازے پر

مِسْكِينِكَ بِبَارِكٍ ضَعِيفُكَ بِبَارِكٍ

تیرا مسکین ہوں تیرے دروازے پر تیرا ناقواں ہوں تیرے دروازے پر

ضَيْفُكَ بِبَارِكٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

تیرا ہمان ہوں تیرے دروازے پر اے پروردگار جہانوں کے

الطَّالِحُ بِبَارِكٍ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

بد کردار ہوں تیرے دروازے پر اے زیاد درس زیاد چاہنے والوں کے

مَهْمُومِكَ بِبَارِكٍ يَا كَاشِفَ

اندوگین تیرا تیرے دروازے پر اے دور کرنے والے

يَكْرَبِ الْمَكْرُوبِينَ عَاصِيكَ

ظالوں کو اندوگینوں کے گناہ گار تیرا ہوں

بِبَارِكٍ يَا طَالِبَ الْبَارِيْنَ الْمُقْرَبِ

تیرے دروازے پر اے چاہنے والے بیکو کاروں کے اقرار کرنے والا ہوں

بِبَارِكٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

تیرے دروازے پر اے بڑے رحم کرنے والے رحم کرنے والوں کے

الْخَاطِئِ بِبَارِكٍ يَا غَاثَ الْمَذْنُوبِينَ

خطا کرنے والا ہوں تیرے دروازے پر اے بخشنے والے گناہگاروں کے



جو نیک آدمی اس تعداد
 میعاد اور ان شرط طاکا
 متعلقی نہیں ہو سکتا۔ اور
 اس کا پڑھنا ایک بہت
 بڑی برکت کا موجب ہے۔
 اور میں پسند کرتا ہوں کہ
 یہ کوئی یقینہ تشریح
 دے اسے یعنی کے یقین
 نہ ہے۔ پس ہر کوئی بلا یقین
 تعداد میعاد عیدہ بخیر
 قتلہ ایک بار روز جمعہ
 سلائے ایک بار روز جمعہ
 نماز پڑھنے کے لئے
 نماز پڑھنے کے لئے
 نماز پڑھنے کے لئے
 نماز پڑھنے کے لئے

(مؤلف)

الْمُعْتَرِفُ بِبَيْبِكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ

خطا کا اقرار کرنے والا ہوں تیرے دروازے پر اے پروردگار جہانوں کے

الظَّالِمُ بِبَيْبِكَ يَا مَمْلُوكَ الطَّالِبِينَ

ظلم کرنے والا ہوں تیرے دروازے پر اے جائے امید طلبوں کی

الْمُسِيءُ بِبَيْبِكَ أَلْبَاسُ بِبَيْبِكَ

خطا کار ہوں تیرے دروازے پر محتاج ہوں تیرے دروازے پر

الْخَاشِعُ بِبَيْبِكَ اِرْحَمْنِي يَا مَوْلَايَ

عاجزی کرنے والا ہوں تیرے دروازے پر رحم کر مجھ پر اے میرے مولا تو

أَنْتَ الْغَافِرُ وَأَنَا الْمُسِيءُ وَهَلْ

بخشنے والا ہے اور میں خطا کار ہوں اور کون رحم

يَرْحَمُ الْمُسِيءَ إِلَّا الْغَافِرُ

کرے گا مگر بخشنے والے کے

مَوْلَايَ أَنْتَ الرَّبُّ وَأَنَا الْعَبْدُ

اے میرے مولا تو مالک ہے اور میں بندہ ہوں

وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الرَّبُّ

اور کون رحم کرے گا بندے پر سوائے پروردگار کے

مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْمَالِكُ وَ

اے میرے مولا اے میرے مولا تو مالک ہے اور

أَنَا الْمَمْلُوكُ وَهَلْ يَرْحَمُ

میں بندہ ہوں اور کون رحم کرے گا



السَّمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكُ مَوْلَايَ

بندے پر سوائے مالک کے اے میرے مولا

مَوْلَايَ أَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا الذَّلِيلُ

اے میرے مولا تو غالب ہے اور میں خوار ہوں

وَهَلْ يَرْحَمُ الذَّلِيلَ إِلَّا الْعَزِيزُ

اور کون رحم کرے گا خوار پر سوائے غالب کے

مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا

اے میرے مولا اے میرے مولا تو توانا ہے اور میں

الضَّعِيفُ وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيفَ

نازواں ہوں اور کون رحم کرے گا نازواں پر

إِلَّا الْقَوِيُّ مَوْلَايَ مَوْلَايَ

سوائے توانا کے اے میرے مولا اے میرے مولا

أَنْتَ الْكَرِيمُ وَأَنَا اللَّيْمُ وَهَلْ

تو بخشش دالا ہے اور میں نااہل ہوں اور کون

يَرْحَمُ اللَّيْمَ إِلَّا الْكَرِيمُ مَوْلَايَ

رحم کرے گا نااہل پر سوائے بخشش دالے کے اے میرے مولا

مَوْلَايَ أَنْتَ الرَّزَّاقُ وَأَنَا

اے میرے مولا تو بڑا روزی دینے والا ہے اور میں روزی

الْمَرْزُوقُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَرْزُوقُ

دیا گیا ہوں اور کون رحم کرے گا روزی دئے گئے پر



إِلَّا الزَّازِقُ مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ

سوائے روزی دینے والے کے اے میرے مولا اے میرے مولا تو

الْعَزِيزُ وَأَنَا الدَّلِيلُ وَأَنْتَ الْغَفُورُ

غالب ہے . اور میں نوار ہوں اور تو بخشنے والا ہے

وَأَنَا الْمُدْنِبُ وَأَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا

اور میں گنہگار ہوں اور تو توانا ہے اور میں

الضَّعِيفُ إِلَهِي الْأَمَانُ الْأَمَانُ

نازواں ہوں اے اللہ میرے امان دے امان دے

فِي ظُلْمَةِ الْقُبُورِ وَصَيِّقًا إِلَهِي

اندھیرے میں قبروں کے اور تنگ میں قبروں کے اے اللہ میرے

الْأَمَانُ الْأَمَانُ عِنْدَ سُؤَالِ مُنْكَرٍ وَ

امان دے امان دے بروقت سوال منکر اور

نَكِيرٍ وَهَيَّبَتَهُمَا إِلَهِي الْأَمَانُ

نکیر اور ان کی ہیبت کے اے اللہ میرے امان دے امان دے

الْأَمَانُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

دے اس دن کہ ہوگی جس کی مقدار

خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَهِي الْأَمَانُ

پہاس ہزار برس کی اے اللہ میرے امان دے

الْأَمَانُ يَوْمَ يُفْخَرُ فِي الصُّورِ

امان دے اس دن کہ تو فرماتا ہے کہ بھونکا جاوے گا صور پس



فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي

یہو سن جو کر گریں گے جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو لوگ زمین

الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَهِي

میں ہیں مگر جن کو چاہے گا اللہ سے اللہ میرے

الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ

امان دے امان دے جس دن کہ تو فرماتا ہے ہلائی جائے گی زمین

زُلْزِلَتِ السَّمَاءُ وَالْأَمَانَ الْأَمَانَ

ہلائی جائے پر اے اللہ میرے امان دے امان دے

يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ إِلَهِي

کہ تو فرماتا ہے اس دن پھٹیں گے آسمان ساتھ بادلوں کے اے اللہ میرے

الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءَ

امان دے امان دے اس دن کہ تو فرماتا ہے ہم لپیٹ لیں گے

كُطَيِّ السَّجْدَ لِكُتُبِ إِلَهِي الْأَمَانَ

آسمان جیسے لپیٹتے ہیں طومار میں کاغذ اے اللہ میرے امان دے

الْأَمَانَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ

امان دے کہ تو فرماتا ہے بدلی جائے گی زمین اور

الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ

زمین سے اور آسمان اور کھڑے ہوں گے سامنے اللہ

الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ إِلَهِي الْأَمَانَ

کے جو ایک اور بدست ہے اے اللہ میرے امان دے



الْأَمَانَ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ

امان دے اس دن کہ تو فرماتا ہے دیکھ لاکڑی جو کچھ آگے بھیجا

يَدَاہُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلْبِثْتُ

۴ (اعمال) اور کہے گا کافر کاشن کہ میں

كُنْتُ تُرَابًا اِلٰهِيَّ اَلْأَمَانَ اَلْأَمَانَ

ہوتا مٹی اے اللہ میرے امان دے امان دے اس دن

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا

کہ تو فرماتا ہے کہ نہ نفع کرے گا مال اور نہ بیٹے مگر جو

مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِلٰهِيَّ

لوگ کہ آئیں گے اللہ کے پاس ساتھ دل سادہ کے اے اللہ میرے

اَلْأَمَانَ اَلْأَمَانَ يَوْمَ يُنَادٰى مِنْ

امان دے امان دے کہ تو فرماتا ہے اس دن ندا کی جائے

بَطْنَانِ الْغُرُثِ اَيْنَ الْعَاصُونَ

گاندھ سے عرش کے کہاں ہیں گناہگار

وَاَيْنَ الْمُذْبِحُونَ وَاَيْنَ الْخَافُونَ

اور کہاں ہیں بھگت اور کہاں ہیں خوف کرنے

وَاَيْنَ الْخَاسِرُونَ هَلْمُوْا اِلَى الْحِسَابِ

والے اور کہاں ہیں خسارہ ہانپنے والے دوڑو حساب کے لئے

اَنْتَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَا نِيَّتِي فَاَقْبِلْ

تو جانتا ہے میرے بھید اور میرے ظاہر کو پس قبول کر



مَعْدِرَاتِي وَتَعَلَّمْ حَاجَتِي فَا عِطِنِي

میرا عذر اور تو جانتا ہے میری حاجت پس دے میرا

سُؤَالِي يَا إِلَهِي أَهْ مِنْ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ

سوال اے اللہ میرے آہ زیادتی گناہوں

وَالْعُصْيَانِ أَهْ مِنْ كَثْرَةِ الظُّلْمِ وَ

اور خطاؤں سے آہ زیادتی ظلم اور

الْجَفَاءِ أَهْ مِنَ النَّفْسِ الْمَطْرُودَةِ

جفا سے آہ نفس بھاگے ہوئے سے

أَهْ مِنَ النَّفْسِ الْمَطْبُوعَةِ بِالْهُوَى

آہ نفس سے جو چلا گیا ہے واسطے خواہش کے

أَهْ مِنَ الْهُوَى أَعِثْنِي يَا مَعِثُ

آہ خواہش سے زیاد دے میری اے زیاد رس

عِنْدَ تَغْيِيرِ حَالِي إِيَّيْكَ عَبْدُكَ الْمَذْنُوبُ

وقت متغیر ہونے میرے حال کے بیشک میں تیرا بندہ ہوں گناہگار

مُجْرِمٌ الْمَخْطِئِي أَجْرِي مِنَ النَّارِ

بدکار خطا دار پناہ دے مجھ کو دوزخ سے

يَا مُجِيبُ يَا مُجِيبُ اللَّهُمَّ إِنْ

اے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والے اے اللہ اگر

تَرَحُّمَنِي فَأَنْتَ أَهْلٌ وَإِنْ تَعَذَّبْتَنِي

تو رحم کرے گا مجھ پر پس تو اس کے لائق ہے اور اگر عذاب کرے گا



فَاَنَا أَهْلٌ فَارْحَمْنِي يَا أَهْلَ

مجھ کو تو میں اس کے لائق ہوں پس رحم کر مجھ پر اے صاحب

التَّقْوَىٰ وَيَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ وَ

تقویٰ اور اے صاحب بخشش اور

يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا خَيْرَ

اے بڑے رحم کرنے والے رحم کرنے والوں کے اور اے بہتر

الْغَافِرِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ

بخشنے والوں کے کافی ہے مجھ کو اللہ اور بہتر

الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ

کارساز بہتر مالک اور بہتر

التَّصِيدُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ

مددگار اور رحمت کاملہ نازل کرے اللہ تعالیٰ اپنے

خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ

بہترین مخلوق پر محمدؐ میں اور ان کی اولاد پر اور

أَصْحَابِيهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا

ان کے یاروں پر سب پر ساتھ تیری رحمت کے اے

أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

بڑے رحم کرنے والوں کے رحم کرنے والے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقْوَمَ الْإِسْلَامِ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَسَلِّمْ تِلْكَ كَبْرًا كَبْرًا أَجْلَابًا



دُعَاؤُ سَيِّدِي

پودھا حضرت
اولیٰ قرآن کی ہے۔
اس دعا کے پیشے کا طریق
یہ ہے۔ بعد نماز صبح اور روز
ایک یاقین یا بامانہ پڑھا
اور پڑھنے کے وقت
مٹی لریان
جاوے۔
خوشبودار اشیا
یا مال کا پوز کر کے اور
دیگرہ اپنے پارچات میں لگا
لے جو اپنا دلی مقصد پوری
کے۔ چالیس یوم اسی
نظر رکے۔
طرح و درازانہ پڑھنے سے
انشاء اللہ مقصدی پورا
ہوگا۔ اگر ایک چلہ میں
مقصد پورا نہ ہو۔ تو دوسرے
چلہ کرے۔ بعد اللہ کا بیان
ہوگی۔ مگر یہ میرے ہے
کہ ترک جو اناسد ہی گوشت
لائے۔ انڈا دیرہ نکلائے

رُكَاةٌ سِيفِيٌّ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا اَصْحَابَ السِّحْرِ

قسم دیتی ہوں تم کو اے اصحاب سحر

وَالْوَسْوَسِيسِ وَاعْتَصَمْتُ بِكُمْ

اور دوسو اس اور چنگل مارا میں نے ساتھ تیرے

يَا اَللّٰهُ بِحَقِّ الْخَضِرِ وَالْاُولَيَا سِ

اے اللہ! طفیل میں نعم اد الیاس

وَبِحَقِّ كَهْمِيْجِ مَهْمِيْجِ كَهْمِيْجِ

اور طفیل میں کھم کھم کھم

جُوْجُوْجُ مَرْجُوْجُ مَرْمَخُوْجُ

جو جو جو مرجو ج مر مخو ج

مَهْمَجُوْعٌ وَبِحَقِّ اَيْخِ اَيْخِ

مہم جو ع اور طفیل میں ایخ ایخ

زَجْرُ هَيْمُوْعٌ مَخُوْجُ طَفْعَا جِ

زجر ہیمو ع مخو ج طفعا ج



از غلطی سے ایجا جی کا
کی جائے تو نسل کرنا
فوری ہے۔ مگر تیرے
ہے۔ کہ اگر گوشت کورہ
نکلائے۔ دعا کے سیفی
یہ ہے:
عزمت السحور و
الوسواس ... الخ

اسی طرح اس دعا کے سیفی
کو پیشہ پڑھنے کا قصد
کرنے اور حق تو اب کثرت
ہے پڑھنے والے پر روزانہ
یا تین یا پندرہ کرنا کہ
اسے پڑھنے کا اصول یہیں
اور جو چیزیں جو اسم ہیں۔ ان سے
باز رہے، اور حق کا استعمال
باقی ہو تو آندو

أَزْرٍ أُنْحَاسٍ وَيَحِقُّ أَدَمَ وَ
ازر انحاس اور طفیل میں آدم ۲ اور
نُوحٍ وَاعْتَصَمْتُ بِكَ مِنْ
نوح ۲ اور چنگل مارا میں نے تیرے ساتھ
سَرِّ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالْأَهْرَمِينَ
بدی سے جن اور آدمیوں اور دلہ
وَالشَّيَاطِينِ وَالْجُنُودِ وَالْآتِبَاعِ
اور شیطانوں اور لشکروں اور تابعوں
وَمِنْ آفَةٍ وَعَاهَةٍ وَاعْتَصَمْتُ
اور ہر آفت اور سختی سے اور چنگل مارا میں نے
بِكَ مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَيَحِقُّ دَانِيَالَ
ساتھ تیرے ہر بلا سے اور طفیل میں دانیال کے
وَيَحِقُّ آيُخِ آيُخِ وَأُرْسِ وَ
اور طفیل میں ایخ ایخ اور ارش اور
أُرْسِ وَتُورِشِ وَنُورِشِ وَ
ارش اور نورش اور نورش اور
بِحَقِّ إِهْيَا أَشْرَاهِيَا إِهْيَا أَشْرَ
طفیل میں ایہا اشراہیا ایہا اشرا
إِهْيَا أَصْبَا عُوْتِ وَيَحِقُّ عَظْمَتِكَ
اشراہیا اصبا عوث اور طفیل میں تیری عظمت کے



(الحقہ از صبح کو شتر)
لال ہے۔ اسے دودارط
اور بڑا زلفاے الہی اور کوئی
مقابلہ نہیں نظر نہ رکھے۔
یاسعی یا قیوم
(مؤلف)

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ وَاحْفَظْنِي مِنْ

اے اللہ اے اللہ اور پناہ دے مجھ کو

الْبَلَدِ وَالْأُفَّةِ وَالْعَاهَةِ

بلایا اور رنج اور سختی سے

وَيَحِقُّ مُوسَى وَعِيسَى وَيَحِقُّ

اور طفیل میں موسیٰ ۳ اور عیسیٰ ۴ اور طفیل میں

دَاوُدَ وَزَكَرِيَّا وَيَحِقُّ إِسْمَاعِيلَ

داؤد ۴ اور زکریا کے اور طفیل میں اسماعیل ۴

وَيَحْيَى وَيَحِقُّ إِدْرِيسَ وَشَيْثَةَ

اور یحییٰ کے اور طفیل میں ادیس ۴ اور شیتہ ۴ کے

وَيَحِقُّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

اور طفیل میں محمد ۴ کے رحمت کاملہ نازل کر ان پر اور

آلِهِ وَسَلَّمَ وَيَحِقُّ أَسَدَ اللَّهِ الْغَالِبِ

انکی اولاد پر اور سلام بھیج اور طفیل میں شیر خدا غالب

مُرْتَضَى عَلِيٍّ وَيَحِقُّ حَضْرَتِ إِمَامِ

مرتضیٰ علیؑ کے اور طفیل میں حضرت امام حسنؑ

حَسَنِ وَيَحِقُّ حَضْرَتِ إِمَامِ حُسَيْنٍ وَ

اور طفیل میں حضرت امام حسینؑ اور

يَحِقُّ حَضْرَةَ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ

طفیل میں حضرت سیدۃ النساء فاطمہؑ



الزَّهْرَاءُ وَبِحَقِّ ذَوَاذِهِ إِمَامٍ

الزہرا رضی اللہ عنہا اور طفیل ہیں بارہ امام

وَجِبَاهَا رَدَّهُ مَعْصُومٍ صَلَوَاتٍ

ادب بچوہ معصوم کے رحمت کاملہ

اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَبِحَقِّ

نازل ہوا اللہ کی ان سب پر اور طفیل ہیں

أَبِي مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ الدِّينِ عَبْدِ

ابی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدالقادر

الْقَادِرِ رَجِيلاً فِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

بیٹائی کے راضی ہوئے اللہ برتر

عَنْهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي

ان سے بھروسہ کیا میں نے ایسے زندہ پر کہ نہیں ہے

لَا يَدَايَةَ لَهُ وَلَا يَمَانَةَ لَهُ

مزدور اس کے لئے اور نہ ختم اس کے لئے

وَاعْتَصَمْتُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ

اور چنگل مارا میں نے ساتھ تیرے بدی جن

وَأَلْبَسُ بِقُرْآنِهِ سِيْفِي وَأَسْتَجِبُ

اور اللہ کے ساتھ پڑھنے سیفی کے اور قبول کر

دُعَائِي يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

میری دعا اے زیاد رس زیاد چاہنے والوں کے۔



أَعْتَنِي يَا مَنْ لَيْسَ كِسْفُهُ شَيْءٌ

زیادہ دس میری اسے وہ ذات کہ نہیں ہے اس کی مثل کوئی چیز

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ حَسْبِي

اور وہی ہے سنے والا دیکھنے والا کافی ہے مجھ کو

اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ

اللہ اور بہتر کارساز بہتر

السَّمَوِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَصَلَّى

مالک اور بہتر مددگار اور رحمت کاملہ

اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ

نازل کر اسے اللہ برتر اپنے بہتر مخلوق

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

محمد پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے یاروں پر

أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

سب پر تیری رحمت کے اے بڑے رحم کرنے والے

الرَّاحِمِينَ ط

رحم کرنے والوں کے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقْوَمَ الْإِسْلَامِ

بِالْحَيِّ يَا قَبِيضُ



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَلَى آلِهِ

وَسَلِّ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَبَدًا أَبَدًا

دُعَاةُ كُنْجِ الْعَرْشِ

سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْوَفِيِّ لَا إِلَهَ

پاک ہے زور والا وفا کرنے والا نہیں کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ

مگر اللہ پاک ہے باریک دیکھنے والا خبر رکھنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّمِدِ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے بے نیاز

الْمَعْبُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

معبود نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے

الْعَفُورِ الْوَدُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

بخشنے والا دوست رکھنے والا نہیں کوئی معبود مگر اللہ

سُبْحَانَ الْوَكِيلِ الْكَفِيُّ لَا إِلَهَ

پاک ہے کارساز ذمہ دار نہیں کوئی

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّقِيبِ الْخَفِيظِ

معبود مگر اللہ پاک ہے نگہبان حفاظت کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَدِيمِ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے قدیم

الْقَائِمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

قائم نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے

الْمُحْيِ الْمَمِيتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

زندہ کر دینے والا مارنے والا نہیں کوئی معبود مگر اللہ



حقیقہ

(از صفحہ گذشتہ)

دیکھا، اشارہ اللہ العزیز

اس کے جملہ مطالب و

حاجات بر آئیں گے۔

بارہا اس کو آزمایا گیا ہے

واقعی تیر بہدوت ہے

ان اجازت شرط ہے

لیکن اجازت کسی کا ل

منتشر اور مستحق ہونے پر

دور سے ہونی چاہیے۔

لا حاصل

وما علینا الا

السلام

سُبْحَانَ الْعَلِيمِ الْعَدِيمِ لَا إِلَهَ

پاک ہے جاننے والا بڑا علم والا نہیں کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الشَّامِ فِي الْكَافِي

مگر اللہ پاک ہے شفا دینے والا کفایت کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَظِيمِ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے عظمت والا

الْبَارِقِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

ہمیشہ رہنے والا نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے

الصَّمِدِ الْأَحَدِ لَا إِلَهَ إِلَّا

بے نیاز اکیلا نہیں کوئی معبود مگر

اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ

اللہ پاک ہے پروردگار آسمانوں کا

وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور زمین کا نہیں کوئی معبود مگر اللہ

سُبْحَانَ الْخَائِقِ الْمَخْلُوقَاتِ

پاک ہے پیدا کرنے والا خلقت کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ مَنْ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے جس نے

خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا إِلَهَ

پیدا کیا رات اور دن کو نہیں کوئی معبود



إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْفَتَّاحِ الْعَلِيمِ

مگر اللہ پاک ہے کھولنے والا علم والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَالِقِ

ہنیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے پیدا کرنے والا

الْبَارِئِ الرَّزَّاقِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

رزق دینے والا ہنیں کوئی معبود مگر اللہ

سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْغَنِيِّ لَا إِلَهَ إِلَّا

پاک ہے غالب ہے پردہ میں کوئی معبود مگر

اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَفُورِ الشَّكُورِ

اللہ پاک ہے پردہ پوش شاکوں کا فردوان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَظِيمِ

ہنیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے عظمت والا

الْأَعْظَمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

بہت بڑا ہنیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے

ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا

صاحب ملک اور بادشاہت کا ہنیں کوئی معبود مگر

اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ

اللہ پاک ہے صاحب ملک و عزت اور عظمت والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي

ہنیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے



الْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا

صاحبِ دیرِ اور قدرت کا نہیں کوئی معبود مگر

اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ

اللہ پاک ہے صاحبِ بزرگی کا اور بڑائی کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّمَائِ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے پردہ پوش

الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

عظمت والا نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ

جاننے والا غیب اور ظاہر کا نہیں کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَمِيدِ الْمَجِيدِ

مگر اللہ پاک ہے خوبوں والا بزرگی والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَكِيمِ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے حکمت والا

الْعَلِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

جاننے والا نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے

الْقَادِرِ الْغَفَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

قدرت والا بڑا بخشنے والا نہیں کوئی معبود مگر اللہ

سُبْحَانَ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ لَا إِلَهَ

پاک ہے سننے والا جاننے والا نہیں کوئی معبود



إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ الرَّحْمَنُ

مگر اللہ پاک ہے نہایت مہربان بڑے

الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

رحم والا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے

الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ السَّلَامِ لَا إِلَهَ

پادشاہ ماکف سلامت، عجیب سے نہیں کوئی مہبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيَّمِ

مگر اللہ پاک ہے امن دینے والا نگہبان

الْعَلَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

بڑا دانا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے

الْجَبِيلِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ لَا إِلَهَ

جلالت والا زبردست بڑائی والا نہیں کوئی مہبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَفَّارِ الْوَهَّابِ

مگر اللہ پاک ہے بخشنے والا بہت دینے والا

الْقَهَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

بڑے قہر والا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے

الرَّزَّاقِ الْفَتَّاحِ الْعَلِيمِ لَا إِلَهَ

روزی دینے والا اور کھولنے والا جاننے والا نہیں کوئی

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَابِضِ الْبَاسِطِ

مہبود مگر اللہ پاک ہے بند کرنے والا کھولنے والا



الرَّافِعِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

بلند کرنے والا نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے

الْمُعِزِّ الْمُنِزِّلِ السَّمِيعِ لَا إِلَهَ

عزت دینے والا ذلت دینے والا سنتے والا نہیں کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْبَصِيرِ الْحَكِيمِ

مگر اللہ پاک ہے دیکھنے والا فیصلہ کرنے والا

الْعَدْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

داد دینے والا نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے

اللطيف الخبير العظيم لا إله

باریک بین سمجھتا رکھنے والا عظمت والا نہیں کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَلِيمِ الْغَفُورِ

مگر اللہ پاک ہے بردبار شاکر کا

الشكور لا إله إلا الله سبحان

قدر دان نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے

العالي الكبير الحفيظ لا إله

برتر بڑا نگہبان نہیں کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُقِيتِ الْحَسْبِ

مگر اللہ پاک ہے قوت دینے والا کافی

الجليل لا إله إلا الله سبحان

بزرگ نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے



الْكَرِيمِ الرَّقِيبِ الْمُجِيبِ لَا إِلَهَ

بخشش کرنے والا نگہبان قبول کرنے والا نہیں کوئی مہبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَاسِعِ الْحَكِيمِ

مگر اللہ پاک ہے فراخی والا بڑا حکمت والا

الْوَدُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

دوست نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے

الْمَجِيدِ الْبَاعِثِ الشَّهِيدِ لَا إِلَهَ

بزرگی والا بھیجنے والا رسولوں کا گواہ نہیں کوئی مہبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَقِّ الْوَكِيلِ

مگر اللہ پاک ہے سچا کارساز

الْعَلِيِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

برتر نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے

الْقَوِيِّ السَّمِيعِ الْوَلِيِّ لَا إِلَهَ

زور آور مضبوط دوست نہیں کوئی مہبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُحْصِي الْمُبْدِي

مگر اللہ پاک ہے ترتیب کیا ہوا پہلے پیدا کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُعِيدِ

نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے لوٹانے والا

الْمُحْيِ الْمَمِيتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

زندہ کرنے والا مارنے والا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ



سُبْحَانَ الْمَاجِدِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ

ہاک ہے بزرگ واحد اکیلا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّمَدِ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ ہاک ہے بے نیاز

الْقَادِرِ الْمُقْتَدِرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

توانا قدرت رکھنے والا نہیں کوئی معبود مگر اللہ

سُبْحَانَ السُّفِّدِ الْمَوْجِرِ الْأَوَّلِ

ہاک ہے آگے کرنے والا پیچھے کرنے والا سب سے پہلا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَحِيدِ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ ہاک ہے بے چھٹا

الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ظاہر باطن شہیدہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ

سُبْحَانَ الْوَالِي الْمُسْتَعَانَ

ہاک ہے وارث مدد طلب کیا گیا

الْمُتَعَالَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

بزرگ نہیں کوئی معبود مگر اللہ ہاک ہے

الْكَبْرِ الثَّوَابِ الْمُنْتَقِرِ لَا إِلَهَ

نیک کار توہ قبول کرنے والا بدل لینے والا نہیں کوئی معبود

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَفْوِ الرَّؤُوفِ

مگر اللہ ہاک ہے معاف کرنے والا مہربان



الْزَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

نہایتِ رحم والا نہیں کوئی۔ مہبود مگر اللہ پاک ہے

الْمَلِكِ الْمَلِكِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مالک مالک کا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ

سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

پاک ہے صاحبِ بزرگی اور عزت کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَقْسُطِ

نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے انصاف کرنے والا

الْجَامِعِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

جسم کرنے والا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے

الْعَنِيِّ الْمُغْنِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

بے پردہ بے پردہ کرنے والا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ

سُبْحَانَ الْمُعْطِي الْمُنَائِعِ لَا إِلَهَ

پاک ہے عطا کرنے والا باز رکھنے والا نہیں کوئی مہبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّارِ النَّافِعِ

مگر اللہ پاک ہے ضرر پہنچانے والا نفع پہنچانے والا

التَّوَّابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

روحانی والا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے

الْمُهَادِي الْبَدِيعِ الْبَاقِي لَا إِلَهَ

راہ دکھانے والا پیدا کرنے والا ہمیشہ رہنے والا نہیں کوئی مہبود



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَارِثِ الرَّشِيدِ

مگر اللہ پاک ہے وارث درست تہمیر والا

الصَّبُورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

بڑا تحمل والا نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے

الْقَدِيمِ الْحَكِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

قدیم حکمت والا نہیں کوئی معبود مگر اللہ

سُبْحَانَ الْقَادِرِ السَّتَّارِ لَا إِلَهَ

پاک ہے قدرت والا پردہ پوشش نہیں کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّمِيعِ الْبَصِيرِ

مگر اللہ پاک ہے سنے والا دیکھنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے بے پردہ

الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

عظمت والا نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے

الْعَلَمِ السَّلَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

علم والا سلامت سب عیب سے نہیں کوئی معبود مگر اللہ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ النَّصِيرِ لَا إِلَهَ

پاک ہے پادشاہ مدد دینے والا نہیں کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الرَّحْمَنِ

مگر اللہ پاک ہے بے پردہ بڑا ہیربان



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَرِيبِ

نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے نزدیک

الْمُجِيبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

قبول کرنے والا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے

الْوَرِيِّ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

دوستِ خوبیوں کا ہے نہیں کوئی مہبود مگر اللہ

سُبْحَانَ الصَّبُورِ السَّتَّارِ لَا إِلَهَ

پاک ہے بردبار عیب پوش نہیں کوئی مہبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَائِقِ التَّوْرِ

مگر اللہ پاک ہے پیدا کرنے والا روشنی اور

وَالضِّيَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

اجاے والا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے

الْغَنِيِّ الْمُعْجِزِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

بے پردہ عاجز کرنے والا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ

سُبْحَانَ الْفَاضِلِ الشَّكُورِ لَا إِلَهَ

پاک ہے بزرگی والا شاکوں کا تردان نہیں کوئی مہبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْقَدِيمِ

مگر اللہ پاک ہے بے پردہ قدیم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي

نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے صاحب



الْحَلَالِ وَالْأَكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا

بزرگی اور انعام کا نہیں کوئی معبود مگر

اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ الْإِسْمِ

اللہ پاک ہے صاحب بزرگی کا ظاہر کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَالِصِ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے خالص ہے

الْمُخْلِصِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

بے عیب نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے

الصَّادِقِ الْوَعْدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

سچا وعدے کا نہیں کوئی معبود مگر اللہ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ

پاک ہے بادشاہ سچا ظاہر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے قزاقا

الْعَزِيزِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

غالب نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے

مَنْ لَا يَمُوتُ وَلَا يَفُوتُ أَبَدًا

جو نہیں مرتا اور نہیں قوت ہوتا کبھی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَيِّ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے زندہ



الْقَبُولِ وَالَّذِي لَا يُبُوتُ لِآلِهِ

قبول ہے جو نہیں کرتا نہیں کوئی مبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَائِلِ التَّوْبِ

مگر اللہ پاک ہے قبول کرنے والا توبہ کا

شَدِيدِ الْعِقَابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

سخت عذاب والا نہیں کوئی مبود مگر اللہ

الْقَدِيمِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَبَعْدَ كُلِّ

قدیم ہے ہر شے سے اور بعد ہر شے سے

شَيْءٍ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

نہیں کوئی مبود مگر اللہ پاک ہے

الْبَارِي الْمُصَوِّرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

پیدا کرنے والا عالم کا صورت بنانے والا نہیں کوئی مبود مگر اللہ

سُبْحَانَ الْفَرْدِ الصَّمِيِّ الْمَدَابِرِ

پاک ہے اکیلا بے نیاز تدبیر کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ

نہیں کوئی مبود مگر اللہ ہر شے فنا ہونے والی ہے

إِلَّا وَجْهَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

سوائے ذلت اس کی کے نہیں کوئی مبود مگر اللہ پاک ہے

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مالک دن جزا کا نہیں کوئی مبود مگر اللہ



سُبْحَانَ الْعَلَّامِ الْغُيُوبِ لَا إِلَهَ

پاک ہے جاننے والا نبیوں کا نہیں کوئی مہبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّمَائِ الْغُيُوبِ

مگر اللہ پاک ہے ڈھانپنے والا نبیوں کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْتَ عَفَا ذُنُوبِ

نہیں کوئی مہبود مگر اللہ تو ہی بخشنے والا ہے گناہوں کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ

نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے جو بخشنے والا

عَافٍ ذَا ذُنُوبٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ہے گناہوں کا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ

سُبْحَانَ الْعَفْرَانِ الْمُسْتَعَانِ

پاک ہے بخشنے والا مدد طلب کیا گیا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَنَانِ

نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے رحمت کرنے والا

الْمَنَّانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

احسان کرنے والا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے

الرَّبِّ الْعَالَمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

پالنے والا تمام جہانوں کا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ

سُبْحَانَ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ الْوَهَّابِ

پاک ہے بھیجنے والا وارثِ بہشت دینے والا



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَدْلِ

نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے۔ بڑی واردینے والا

الْمُؤْمِنِ الْمُهَيَّمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

امن دینے والا نگہبان نہیں کوئی مہبود مگر اللہ ہے

سُبْحَانَ السُّلْطَانِ الْبَاسِطِ لَا إِلَهَ

پاک ہے بادشاہ کھولنے والا نہیں کوئی مہبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَلِيِّ الْمُحْصِي

مگر اللہ پاک ہے دوست گھرنے والا

الْمُبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

پہلے پیدا کرنے والا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے

الْوَاجِدِ الْمَاجِدِ التَّوَّابِ لَا إِلَهَ

بڑی شان والا توبہ قبول کرنے والا نہیں کوئی

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُنتَقِمِ الْمُنْعِمِ

مہبود مگر اللہ پاک ہے بدل لینے والا انعام دینے والا

الْعَفْوِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

معاف کرنے والا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے

الْمُقْتَدِرِ الْقَادِرِ الْمُقْتَدِرِ لَا إِلَهَ

آگے کرنے والا تو انا قدرت رکھنے والا نہیں کوئی مہبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَسِيبِ الْمَقِيَّتِ

مگر اللہ پاک ہے کافی قوت دینے والا



الْحَفِيفُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

نہان نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے

الْحَافِظُ النَّاصِرُ الْقَاهِرُ لَا إِلَهَ

نگاہ رکھنے والا مدد دینے والا مگر کرنے والا نہیں کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَادِي الْبَدِيعِ

مگر اللہ پاک ہے راہ دکھانے والا پسند کرنے والا

الْبَاقِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

ہمیشہ رہنے والا نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے

الْقَابِضُ الرَّافِعُ الْخَافِضُ لَا

بند کرنے والا بند کرنے والا پست کرنے والا نہیں کوئی

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ التَّوَّابِ

معبود مگر اللہ پاک ہے روشنی والا

الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

انصاف کرنے والا جمع کرنے والا نہیں کوئی معبود مگر اللہ

سُبْحَانَ الْمَارِعِ الضَّارِّ النَّافِعِ

پاک ہے باز رکھنے والا مضر پہنچانے والا نفع پہنچانے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَجُودِ

نیکی کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے سخاوت کرنے والا

الْمُقَدِّمِ التَّوَّاسِعِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

آگے کرنے والا فراخی دینے والا نہیں کوئی معبود مگر اللہ



سُبْحَانَ الرَّحِيمِ السَّتَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

پاک ہے بڑا مہربان عیب پوش نہیں کوئی مہبود مگر اللہ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الرَّحِيمِ الْغَفَّارِ لَا إِلَهَ

پاک ہے مالک بڑا رحم کرنے والا بخشنے والا نہیں کوئی

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْجَابِرِ الْكَاشِفِ الْكُرُوبِ

مہبود مگر اللہ پاک ہے جابر کھولنے والا سختیوں کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيمِ الرَّؤُوفِ

نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے بردبار بڑا مہربان

الْوَهَّابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي

بہت دینے والا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے صاحب

الْكَرَمِ الْوَاهِبِ الْعَطِيَّاتِ لَا إِلَهَ

کرم کا دینے والا عطیوں کا نہیں کوئی مہبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّدِيدِ الْعُقَابِ

مگر اللہ پاک ہے سخت عذاب کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَافِرِ الذُّنُوبِ

نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے بخشنے والا گناہوں کا

وَالْخَطِيئَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

اور خطاؤں کا نہیں کوئی مہبود مگر اللہ پاک ہے

ذِي الْغَفْرَانِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ لَا إِلَهَ

صاحب بخشش کا اور مالک ملک کا نہیں کوئی مہبود



إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْجَبَلِ الْجَبَّارِ السُّكَّيرِ

مگر اللہ پاک ہے بزرگی بڑا زردست بزرگی والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا

نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے اللہ اس چیز سے کہ بیان

يَصِفُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّلَامِ

کرتے ہیں نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے سلامت ہر چیز سے

الْقُدُّوسِ السُّبُّوحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

پاک ہے پاک نہیں کوئی معبود مگر اللہ

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ

پاک ہے پروردگار فرشتوں کا اور روح کا نہیں کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْأَرْوَاحِ وَالنُّعْمَاءِ

مگر اللہ پاک ہے صاحب ظاہر نعمتوں اور بخششوں کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ پاک ہے بادشاہ

الْمَقْصُودِ الْمَوْجُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

قصد کیا گیا موجود نہیں کوئی معبود مگر اللہ

سُبْحَانَ الْحَقِّ النَّاصِرِ الْمُعِينِ لَا إِلَهَ

پاک ہے سچا مدد دینے والا اعانت کرنے والا نہیں کوئی

إِلَّا اللَّهُ أَدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا

معبود مگر اللہ آدمؑ برگزیدہ اللہ کا ہے نہیں کوئی معبود مگر



اللَّهُ نُوحٌ نَجِيٌّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللہ نوح ۶ مراد اللہ کا ہے نہیں کوئی معبود مگر اللہ

إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٌ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

ابراہیم ۳ دوست اللہ کا ہے نہیں کوئی معبود مگر

اللَّهُ إسماعِيلُ ذَرِيَّةُ اللَّهِ لَا إِلَهَ

اللہ اسماعیل ۳ ذریعہ اللہ کا ہے نہیں کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ مُوسَىٰ كَلِيمٌ اللَّهُ لَا

مگر اللہ موسیٰ ۶ ہم کلام اللہ کا ہے نہیں کوئی

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَاوُدُ خَلِيفَةُ اللَّهِ

معبود مگر اللہ داؤد ۳ خلیفہ اللہ کا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِيسَىٰ رُوحُ اللَّهِ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ عیسیٰ روح (بنائی ہوئی) اللہ کی ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَّسُولٌ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ

کا ہے اور درود ہو اللہ تعالیٰ کا اور بہترین خلقت

خَلْقِهِ وَتُورَعْرِشَةٍ أَفْضَلِ

اس کی کے اور نور عرش اس کے کے افضل

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ حَبِيبِ

نبیوں ۳ اور رسولوں ۶ کے حبیب



رَبِّ الْعَالَمِينَ حَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا

پروردگار عالموں کے حبیب ہمارے اور شفیع ہمارے

وَسَيِّدِنَا وَسَدَنَانَا وَمَوْلَانَا وَ

اور سردار ہمارے اور سہارے ہمارے اور مولا ہمارے اور

وَسَيَّلْتِنَا إِلَى اللَّهِ مُحَمَّدًا وَ

وسیلہ ہمارے طرف اللہ کے محمد ﷺ اور

عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

ادھر آل ان کی کے اور اصحاب ان کے سب کے ساتھ

بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ ط

رحمت اپنی کے اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے !



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقْوَمُ إِلَهِ اللَّهِ

بِالْحَقِّ يَا قَوْمِ



دُرُودُ مَسْتَعَاثُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں نام ساتھ اللہ بخشش کرنے والے بہت مہربان کے

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي زَيَّنَّ النَّبِيَّ

تمام تر لطفیں ثابت ہیں واسطے اللہ کے ایسا اللہ کر زینت دی نبیوں کو

بَعَثَ فِيهِ الْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ

ساتھ بھیجے اپنے کے جو برگزیدہ ہیں اور احسان کیا اور

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ

مومنوں کے ساتھ مبعوث کرنے نبی اپنے کے جو برگزیدہ ہے

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

درو اور سلام اور رسول اس کے کے

مَنْ يَرْجُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ

جو ام ان کا مجھے ہے بہتر خلقت کے وہ نبی کہ سیر کرایا گیا

يَسْتَعِينُ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ

میں مجھ کے اور سے زمین کے پچھے

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ عَلَىٰ مَا

تک سب تر لطفیں اللہ ہی کو ہیں گذشتہ



مَكْنِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا بَقِيَ

پہنچوں پر اور سب تعریفیں اللہ ہی کو ہیں باقی چیزوں پر

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ

درود اور سلام اور رسول اس کے کے

مُحَمَّدٍ خَيْرِ النَّوَارِي مَدَّحُكَ

جو محمدؐ بہتر خلقت کے ہیں نے تیری تعریف کی

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ

اے اللہ کے رسول اللہ کا درود اور

السَّبِيِّ الْأُرْمِيِّ أَنْتَ خَيْرُ اللَّهِ

نبی امی کے تو اللہ کا برگزیدہ ہے

الْمُسْتَعْفَاتُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

فریاد چاہے مجھے اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

درود اور سلام تجھ پر اے اللہ کے

اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدُ الْكَوْمَيْنِ

رسول وہ پیغمبر جو دو جہانوں کے سردار

فَتَا حُ فَاتِحِ اللَّهِ الْمُسْتَعْفَاتُ إِلَى

کھولنے والے مشکلوں کے جاری کرنے والے امر اللہ کے۔ فریاد چاہے مجھے اللہ

حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَ

تعالیٰ کی درگاہ سے درود اور



السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طِيبُ النَّبِيِّ

سلام بخجھ پر اے اللہ کے رسول نبی

الْمُصْطَفَى رَسُوْلُ سِرَاجِ الْعَالَمِيْنَ

برگزیدہ پیغمبر جہانوں کے چراغ

مَخْمُودٌ مُطِيبٌ اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

تولین کئے گئے پاک اللہ کے زیاد چاہے گئے طرف

حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طِيبُ الْمَعْلَى

خجھ پر اے اللہ کے رسول سید بلند مرتبہ

رَسُوْلُ نَبِيِّ الْخَافِقِيْنَ قَاسِمُ خَيْرِ

رسول مشرق مغرب کے بانٹنے والے حوض کوثر

خَلْقِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ

کے اللہ کی خلقت سے بہتر زیاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

تعالیٰ کے درود اور سلام بخجھ پر اے

رَسُوْلَ اللَّهِ أَوْلَىٰ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ رَسُوْلُ

اللہ کے رسول بہتر اللہ کے بندوں سے پیغمبر

صَاحِبِ الدَّارَيْنِ خَادِمُ طِيبِ اللَّهِ

دونوں جہان والا اللہ کا خادم اور پاک



الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

زیاد چاہے گئے اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے

الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام تجھ پر اے اللہ کے رسول

النَّبِيِّ الْمُرَكَّبِيِّ رَسُولِ تاجِ الْحَرَمَيْنِ

نبی پاک کیا گیا پیغمبر مکہ اور مدینہ کے تاج (بادشاہ)

فَا هِرُّ اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ

متنا کرنے والے اللہ کے پاک زیاد چاہے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام تجھ پر

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَا رَسُولٌ جَدُّ

اے اللہ کے رسول ہدایت کی ہم کو ایسے رسول نے جو

الطَّيِّبِينَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ دَاعِ

دو پاکوں حسن اور حسین کے نانے ہیں

مُطَهَّرُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ

پاک کے رحمتے اللہ کے زیاد چاہے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام تجھ پر اے

رَسُولَ اللَّهِ نَبِيِّ مُحْتَمَرٍ مَرْضَى إِمَامٍ

اللہ کے رسول نبی اختیار کے گئے برگزیدہ رضا طلب کیا گیا امام



رَسُولٌ مُّقْتَدَى الْاَيُّمَةِ الْمُهْدِيَيْنِ

رسول آگے کیا گیا ہدایت کرنے والے اماموں کے

هَادِمِيْنَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَاثُ اِلَى

اُدھی نکل کر کرنے والے اللہ کے فریاد چاہے کئے طرف

حَضْرَتِ اللّٰهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهُ هَدَيْنَا رَسُوْلًا

تجھ پر اے اللہ کے رسول راہ دکھائی ہیں رسول نے

مُهْدِيٍّ مِّنَ الضَّلٰلَةِ مُهْتَدٍ مُّطِيعٍ

جو ہدایت کرنے والا گمراہی سے ہدایت کرنے والا اللہ کا

اللّٰهُ الْمُسْتَعَاثُ اِلَى حَضْرَتِ اللّٰهِ

فرمانبردار فریاد چاہے کئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

تعالیٰ کے درود اور سلام تجھ پر اے

رَسُولَ اللّٰهُ حَبِيْبِنَا رَسُوْلًا

اللہ کے رسول ہمارے حبیب پیغمبر

مُهْدِيٍّ اِلَى الْاُمَّةِ وَرَسُوْلٍ صَفِيٍّ

امت کے ہدایت کرنے والے اور برگزیدہ رسول

حُجَّةٍ اللّٰهُ الْمُسْتَعَاثُ اِلَى

برہان اللہ کے فریاد چاہے کئے طرف



حَضَرَتْ اَللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامُ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ مَّحِبُّنَا

تو تجھ پر اے اللہ کے رسول محمدؐ ہمارے دوست

اَحْمَدُ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ مَرْضِيٌّ خَلِيْفَةٌ

احمد رسول کریمؐ پسندیدہ اللہ کے

اللّٰهُ اَلْمُسْتَعَاثُ اِلَى حَضَرَتْ اَللّٰهُ

خلیفہؐ فریاد چاہے کئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالٰى اِلَى الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

تعالیٰ کے درود اور سلام تجھ پر

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَسُوْلُنَا رَسُوْلٌ عَلِيٌّ

اے اللہ کے رسول ہمارے پیغمبر ہیں رسول ہمیشہ

الدَّوَامِ نَبِيٌّ طَهٌ قَائِمٌ حَامِدٌ

سے نبی اطہر قائم ہونے والے عبادت میں اللہ کی

اللّٰهُ اَلْمُسْتَعَاثُ اِلَى حَضَرَتْ اَللّٰهُ

تولیت کرنے والے فریاد چاہے کئے طرف اللہ تعالیٰ کے

تَعَالٰى اِلَى الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

درود اور سلام تجھ پر

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِيْرُنَا رَسُوْلٌ وَ

اے اللہ کے رسول ہمارے امیر رسول اور



نَبِيِّ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى

نبی محمد ﷺ کے رسول اللہ کے رسول ہیں درود

اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ نَا صِرْ كَلِيمُ اللَّهِ ط

اللہ تعالیٰ کا اور اس کے اور سلام مددگار اللہ کے ساتھ کلام کرنے والے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

زیاد چاہ گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

درود اور سلام تجھ پر اے اللہ کے

اللَّهُ ط مُعِينِنَا رَسُولُ وَالذُّرِّ النَّبِيِّ ط

رسول ہمارے مددگار رسول اور موقی اور نبی کے نام مبارک

الْيَاسِينَ إِمَامُ أَمِينِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ ط

ان کا یسین ہے بیٹھا اللہ کے امانت دار فریاد چاہ گئے

إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

سلام تجھ پر اے اللہ کے رسول

مُصَدِّقِنَا رَسُولُ وَحَبِيبِنَا نَبِيِّ ط

ہیں سہا کرنے والے رسول اور محبوب ہمارے نبی

مَزْمِدُ بَيَانِ رَسُولِ اللَّهِ ط

کہی والے بیان کرنے والے رسول اللہ کے



الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

زیاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

درود اور سلام تجھ پر اے

رَسُولَ اللَّهِ ط شَاهِدْنَا رَسُولُ

اللہ کے رسول ہمارے شاہد رسول

وَبَيْتِي مُدَاثِرُ قُرْآنِ نُوْرِ اللَّهِ ط

اور نبی جاس پیش نزدیک کرنے والے نور اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

زیاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

درود اور سلام تجھ پر اے اللہ کے رسول

اللَّهُ ط مَذْكُرْنَا رَسُولُ مَعْظَرُ

ہیں یاد دلانے والے رسول خوشبودار

الرُّوحِ يَا مَرْجُوَادُ اللَّهِ ط الْمُسْتَعَاثُ

روح والے نیکی کرنے والے سنی اللہ کے زیاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

اور سلام تجھ پر اے اللہ کے رسول



سُلْطَانُ الْأَنْبِيَاءِ رَسُولُ صَاحِبِ

نبیوں کے بادشاہ رسول قرآن شریف

الْفُرْقَانِ مَكِّيٌّ شَكُّوْهُمُ اللَّهُ ط

دائے مکہ والے اللہ کے شکر گزار

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

زیاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

درود اور سلام تجھ پر اے اللہ کے

اللَّهُ إِمَامُ الْأَنْبِيَاءِ رَسُولُ صَاحِبِ

رسول امام ہر مہنگاروں کے رسول حوقن کوثر

الْكُوْتُبِ الْمَدْفِيَّةِ مِنْ مَدِينَةِ اللَّهِ ط

کے مالک مدینہ والے اللہ کے نذرانی بندے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ

زیاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

درود اور سلام تجھ پر

يَا رَسُولَ اللَّهِ سِرَاجُ الْأَوْلِيَاءِ

اے اللہ کے رسول دیوں کے پرانے

رَسُولُ صَاحِبِ الْمِيزَانِ أَبُو بَطْحَى

رسول میزان کے مالک ابو بطحی والے



قَرِيبُ اللَّهِ ط الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

زودیک اللہ کے زیاد چاہے گئے طرف

حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

اور سلام تجھ پر اے اللہ کے رسول

بُرْهَانَ الْأَوْصِيَاءِ وَرَسُولِ سَيِّدِ

برگزیدوں کے برہان رسول قوم کے

الْقَوْمِ عَرَبِيٍّ يُتِيْمُ اللَّهِ ط الْمُسْتَعَاثُ

سرور عربی اللہ کے یتیم زیاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

سلام تجھ پر اے رسول اللہ کے

مُتَفِيعُنَا رَسُولُ مَجْرَاهُ الْمُهْدَى ط

ہمارے شفیق رسول کریم جگہ جاری ہونے شفاعت کے

قَرِيبِيَّ شَهِيدُ اللَّهِ ط الْمُسْتَعَاثُ

برایت بھیجنے والے قریبی شاہد اللہ کے زیاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود



وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

اور سلام تجھ پر اے اللہ کے رسول

إِمَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَزِينَةِ

پیڑا مومنون کے اور زینت

الْأَنْبِيَاءِ رَسُولِ خَادِمِ الْفُقَرَاءِ ط

نبیوں کے رسول خدمت کرنے والے فقروں کے

حِجَازِيٍّ تَذِيرُ اللَّهِ الْمُسْتَغَاثِ ط

حجازی اللہ کے ڈرانے والے زیاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ ط

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

اور سلام تجھ پر اے اللہ کے رسول

خَتْمِ الْأَنْبِيَاءِ رَسُولِ مَا جِئَ مُحَمَّدٌ

آخر آنے والے نبیوں کے کفر اور بدعت کو مٹانے والے محمدؐ

ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ط الْمُسْتَغَاثِ إِلَى

بن عبد اللہ زیاد چاہے گئے طرف

حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

سلام تجھ پر اے رسول اللہ کے



صَادِقْنَا رَسُولٌ مَّرْسَلٌ مَّتَوَسِّطٌ

ہمارے راست گو پہنچے بھیجے گئے میانہ رو

رَّحِيمٌ اللَّهُطُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

اللہ کے رحیم زیاد چاہے گئے طن

حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

سلام تجھ پر اے اللہ کے رسول

سَيِّدَانَا رَسُولٌ مُسْتَفِيثٌ

ہمارے سردار پہنچے زیاد چاہنے والے

مُقْتَصِدٌ حَلِيمٌ اللَّهُطُ الْمُسْتَعَاثُ

میانہ رو اللہ کے حلیم زیاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

طن درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

اور سلام تجھ پر اے اللہ کے رسول

أَعِثْنَا يَا رَسُولَ الثَّقَلَيْنِ أَنْتَ

زیاد کو پہنچو ہماری اے جنوں اور انبیاؤں کے رسول تو

حَقٌّ مَنِيبٌ اللَّهُطُ الْمُسْتَعَاثُ

سچا رجوع کرنے والا اللہ کیلین زیاد چاہے گئے



إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

اور سلام تجھ پر اے اللہ کے رسول

وَاعِظْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ الْمُجْتَبَى

ہمارے واعظ رسول اور اللہ کے برگزیدہ رسول

أَوَّلُ حَبِيبِ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى

اول محبوب اللہ کے زیاد چاہے گئے طرف

حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

سلام تجھ پر اے اللہ کے رسول

أَكْرَمَنَا رَسُولُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ

ہمارے بزرگ تر رسول شریعت والے

آخِرُ عَزِيزِ اللَّهِ ط الْمُسْتَفَاتُ

آخر اللہ کے غالب زیاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

درود اور سلام تجھ پر اے



رَسُولَ اللَّهِ ط أَهْلُ التَّقْوَى

اللہ کے رسول پر ہمیں گار

رَسُولٌ صَاحِبُ الطَّرِيقَةِ شَفَاعَةٌ

رسول صاحب طریقت کے شافی

فَصِيحُ اللَّهِ ط الْمُسْتَفَاتُ إِلَى

اللہ کے فصیح فریاد چلے گئے طرف

حَضَرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

اد سلام تجھ پر اے اللہ کے

اللَّهُ ط أَمْتَارِكُ أَنْتَ نَبِيُّنَا

رسول ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہمارا نبی ہے

رَسُولٌ صَاحِبُ الْحَقِيقَةِ مُضَرِّيٌّ

رسول صاحب حقیقت کا اولاد مفرکے

بَشِيرُ اللَّهِ ط الْمُسْتَفَاتُ إِلَى

اللہ کے مزود فریاد چاہے گئے طرف

حَضَرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

اد سلام تجھ پر اے اللہ کے رسول



إِمَامُ الْأُمَمِ مُحَمَّدٌ صَاحِبُ

امتوں کے پیڑا مہر صاحب

التَّعْرِيفَةِ بَدْهَانُ رَحْمَةِ اللَّهِ

عرفت کے برہان اللہ کی رحمت کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ

زیاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى أَلْصَلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

تعالیٰ کے درود اور سلام بخوبی

يَا رَسُولَ اللَّهِ كَبِيرُنَا رَسُولُ

اے اللہ کے رسول ہمارے بزرگ رسول

صَاحِبِ الْجَنَّةِ ظَاهِرُ كَرِيمِ اللَّهِ

صاحب جنت کے غالب اللہ کے سنی

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

زیاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

أَلْصَلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

درود اور سلام بخوبی اے

رَسُولَ اللَّهِ سَنَدُ الْعَاصِمِينَ

اللہ کے رسول تیلہ گناہگاروں کے

رَسُولُ صَاحِبِ الْجَنَّةِ فَارِقُ

رسول جنت والے دوزخ کو خالی



جَهَنَّمَ سُلْطَنُ تَهَامِيٍّ مُؤْمِنٍ

کرنے والے سلطان تہامی تمام والے اللہ کے

اللَّهُ طَ أَلْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ

مومن زیاد چاہے کئے طرن درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى أَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَ فَيَقِيهِنَا

بجھ پر اے اللہ کے رسول ہمارے دانش مند

رَسُولُ صَاحِبِ الصِّرَاطِ مُبْلَغٌ

رسول صاحب صراط کے پہنچانے والے

عَاقِبُ اللَّهِ طَ أَلْمُسْتَعَاثُ إِلَى

امرائہ کے زیاد چاہے کئے طرن

حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى أَلصَّلَاةُ وَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَ

سلام تجھ پر اے اللہ کے رسول

أَمَّا بِكَ أَنْتَ وَوَلِينَا رَسُولُ صَاحِبِ

ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہمارا ولی ہے رسول صاحب

السَّفَاعَةِ يَا طَرْنَ خَلِيلُ اللَّهِ طَ

شفاعت کا باطن ہے اللہ کا دوست



أَلْمُسْتَعَاثُ إِلَىٰ حَضْرَتِ اللَّهِ

فریاد چاہے گئے طرن درگاہ اللہ

تَعَالَىٰ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

تعالیٰ کے درود اور سلام تجھ پر

يَا رَسُولَ اللَّهِ ط شَهِيدًا عَوَامِنَا

اے اللہ کے رسول شہادت دینے والے عام ہم سب

رَسُولُ صَاحِبِ التَّاجِ مُحَلِّلٌ

کے رسول صاحب تاج کے آزاد کرنے والے

يَا ذُرِّيَّةَ اللَّهِ ط أَلْمُسْتَعَاثُ إِلَىٰ

ساتھ حکم اللہ کے فریاد چاہے گئے طرن

حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ الصَّلَاةُ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

اور سلام تجھ پر اے اللہ کے رسول

وَمِنَ النَّبِيِّينَ مُخْلِصُنَا رَسُولٌ

اور آگ سے ہمیں خلاصی دینے والے رسول

صَاحِبِ الْبَحْرَيْنِ حَاشِرُ نَبِيِّ

صاحب بحر اب کے جمع کرنے والے خلقت کے

اللَّهُ ط أَلْمُسْتَعَاثُ إِلَىٰ حَضْرَتِ اللَّهِ

اللہ کے نبی فریاد چاہے گئے طرن درگاہ اللہ



تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

تعالیٰ کے درود اور سلام تجھ پر اے

رَسُولَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الثَّيْبَيْنِ

اللہ کے رسول تو افضل ہے سب نبیوں سے

وَالصَّادِقَيْنِ مَحْبُوبِنَا رَسُولُ

اور صدیقوں سے ہمارے محبوب رسول

صَاحِبِ الْمُنْبَرِ خَطِيبِ رَحْمَةِ اللَّهِ ط

صاحب منبر کے خطیب اللہ کی رحمت کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

فزید چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

درود اور سلام تجھ پر اے اللہ کے

اللَّهُ مَبْشِرُنَا رَسُولُ صَاحِبِ الْبَيْتِ

رسول خوش خبری دینے والے رسول صاحب بیت اللہ کے

عَامِرُ كَعْبَةِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

آباد کرنے والے کعبۃ اللہ کے فزید چاہے گئے طرف

حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط أَكْبَرُنَا رَسُولُ

تجھ پر اے اللہ کے رسول ہمارے بزرگ رسول



صَاحِبِ الْمَعْرَاجِ عَالِمٍ عِنِّي اللَّهُ ط

صاحب معراج کے عالم اللہ کے عینی

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

زیاد چاہے کئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

درود اور سلام بگھ پر اے اللہ کے

اللَّهُ ط نَبِيِّ الْآخِرِ الزَّمَانِ رَسُولِ صَاحِبِ

رسول نبی آخر زمان کے رسول صاحب

الْإِجْتِهَادِ مُنْتَقِمٍ مَكْرَمِ اللَّهِ ط

اجتہاد کے بدلہ لینے والے بزرگ کے کئے اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

زیاد چاہے کئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

درود اور سلام بگھ پر اے اللہ کے

اللَّهُ ط وَفِي الَّذِينَ صَادَقْنَا رَسُولُ

رسول اور وہ ہیں ہمارے راست گو رسول

صَاحِبِ الْقِيَامَةِ نَاطِقٍ شَفِيعِ اللَّهِ ط

صاحب قیامت کے بولنے والے حق کے اللہ کے شفیع

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

زیاد چاہے کئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے



أَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

درود اور سلام تجھ پر اے اللہ کے

اللَّهُ ط مُشَقَّعُ الْأُمَّةِ يُعِينُنَا

رسول شقاعت قبول کئے گئے امت کے ہمارے مددگار

يَا شَفَاعَةَ رَسُولِ صَاحِبِ السَّبْوَةِ

ساتھ شفا عمت کے رسول صاحب نبوت کے

مُحَرَّمٍ قَبِيٍّ اللَّهُ ط أَلْمُسْتَفْعَاتُ إِلَى

حرمت کے گئے اللہ کے نبی فریاد ہمارے گئے طرف

حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى أَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ

تجھ پر اے اللہ کے رسول اور نبی رحمت کے

سَابِقِنَا رَسُولِ صَاحِبِ الدَّارَيْنِ

ہمارے اول رسول صاحب دو جہازوں کے

حَرِيصٌ رَعُوفٌ اللَّهُ ط أَلْمُسْتَفْعَاتُ

رعنت کرنے والے اللہ کے مہربان بندے فریاد ہمارے گئے

إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى أَلصَّلَاةُ وَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

سلام تجھ پر اے اللہ کے رسول



سَيِّدَا الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَاهِ تَبَيَّنَا

رسول جن اور انسانوں کے روکنے والے ہمارے نبی

رَسُولُ صَاحِبِ النِّعَمَةِ هَاشِمِيٌّ كَرَامَةٌ

رسول صاحب نعمت کے ہاشم کی اولاد اللہ کے

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى

بزرگ زیاد چاہے کئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام تجھ پر اے اللہ کے رسول

مَقْرِبُنَا رَسُولُ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ

ہیں نزدیک کرنے والے رسول طرف اللہ کی رحمت کے

مِائَةٌ أَلْفِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَسَلَامٍ

لاکھ - لاکھ درود اور سلام

عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى وَحَبِيبِهِ

ادھر رسول اس کے برگزیدہ اور پسندیدہ حبیب کے

الْمُجْتَبَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

درود اللہ تعالیٰ کا ادھر اس کے

وَأَرْسَلَهُ وَسَلَّمَ

اور اس کی آل کے اور سلام

اللَّهُمَّ ارْحَمْ أَبَا بَكْرٍ النَّقِيُّ

اے اللہ رحم کر حضرت ابو بکر نقی پر



وَعُمَرَ النَّقِيِّ وَعُثْمَانَ الزُّكْرِيِّ وَ

اور عمر پاک پر اور عثمان پاک پر اور

عَلِيَّ بْنَ الْوَرْقِيِّ أَسَدَ اللَّهِ الْمُرْتَضَى وَ

حضرت علیؑ وفادار پر شیر خدا کا پسندیدہ اور

فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَخَدِيجَةَ الْكُبْرَى

فاطمہؑ زہرا پر اور خدیجہ الکبریٰ پر

وَعَائِشَةَ الصِّدِّيقَةَ الْعُلْيَا وَالْحَسَنَ

اور عائشہ صدیقہ بلند مرتبہ پر اور حسن

الرِّضَا وَالْحُسَيْنَ الشَّهِيدَ الْمُجْتَبَى وَ

رضا پر اور حسین برگزیدہ شہید پر اور

الشَّهْدَاءَ الْكُرُبَلَاءَ وَالسَّعْدَاءَ وَالسَّعِيدَاءَ

تمام کربلا کے شہدوں پر اور سعد پر اور سعید پر

وَالطَّلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ

اور طلحہؑ پر اور زبیرؑ پر اور عبدالرحمن

أَبْنِ عَوْفٍ وَ أَبَا عَبِيدَةَ ابْنَ الْجُرَّاحِ

بن عوف پر اور ابو عبیدہ بن جراح پر

الْعَشْرَةَ الْمُبَشِّرِينَ وَسَائِرَ

اور دس اصحابِ نوحِ بخیر دس گیلوں پر اور تمام

الصَّعَابَةَ وَالتَّالِعِينَ وَالْخُلَفَاءَ

اصحاب اور تابعین پر اور خلیفہ



الذَّائِدِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى

ہر چہار ہفتہ راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ط اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

ان سب پر اے اللہ اے اللہ بخش مجھ کو

وَلِوَالِدَيْ وَأَرْحَمَهُمَا كَمَا

اور میرے والدین کو اور ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ

رَبِّي فِي صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ط اللَّهُمَّ

دونوں نے مجھ کو بچپن میں یا بڑاپن میں بخش اے اللہ

لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

واسطے تمام مومنوں کے اور مومن عورتوں کے

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ

اور مسلمان مردوں کے اور مسلمان عورتوں کے زندوں کو

مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا

ان میں سے اور مردوں کو ساتھ اپنی رحمت کے اے

أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

بڑے رحم کرنے والے رحم کرنے والوں کے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقْوَمَ الْإِسْلَامِ

يَا أَيُّهَا الْيَقِينُ



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَلَى آلِهِ

وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَجْدَادًا

دُرُودُ كَبِيرِ رَيْحَانِ

۱۳۰
 اور زکوٰۃ چار بار ہے صوم و
 ایس یوم - ہر روز ایک روز
 زکوٰۃ سیر - ایک ایس یوم ہر روز
 طریق ادارہ زکوٰۃ
 میں پھر کہ پیرے - لباس اور
 صلوٰۃ اور غسل اور صوم کی
 ہر روز کی رہ بار ہے صوم و
 جیسے نذر کو خوش بودار رکھے
 پیاز، لہسن، گوشت، ہر قسم اور
 پھلی و دیگر بر بودار رکھے
 سے ہر روز سے - پانچ چھ
 شروع ماہ میں ان شروط کی
 پابندی کے ساتھ خلوت اختیار
 کرے اور ہر بار مقامات ثلاثہ
 پہنچدہ کر کے ایک بار مقامات
 ثلاثہ پڑھے - یعنی پیلے چھ

درد کبریت احمر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہات رحم والا

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ

اے اللہ اپنا افضل ترین درود گنتی میں (زیادہ تر نماز فرما

عَدَدًا وَاَنْتَیْ بَدَّكَ سَرْمَدًا

اور ہمیشہ اپنی برکتوں کو بہت زیادہ

وَاَزْکٰی تَحِیَّاتِكَ فَضْلًا وَّمَدَادًا

اور از روئے زیادتی و امداد کے اپنے پاکیزہ ترین نعتوں کو (نارضا)

عَلٰی اَشْرَفِ الْحَقَائِقِ الْاِنْسَانِیَّةِ

انسانیت کی بزرگ ترین حقیقت اور

وَمَعْدِنِ الدَّقَائِقِ الْاِیْمَانِیَّةِ

ایمانی بارگیوں کی کان بد

وَطُوْرِ التَّجَلِّیَّاتِ الْاِحْسَانِیَّةِ

اور احسان کے طوہر کی تجلیات پر

وَمَهْبَطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمٰنِیَّةِ

اور اوپر جگہ نازل ہونے والے اسرار رحمانیہ کے



میں تمام اول پڑھ کر
 اٹھائے اور پھر مسجد میں
 جائے اور تمام اول پڑھے
 اور س اٹھائے پھر چھ
 میں جائے اور تمام سوم
 مسجد میں پڑھے اور س
 اٹھائے ایام عزت کی
 جگہ اور روح مطہرہ
 حضور سر کائنات صلی اللہ
 علیہ وسلم کو خصوصاً اور حضرت
 محراب سبحانی غوث صدق
 حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
 کا روح کو باعوم اس کا
 نورانہ منور و شاد و جبریک
 باد پڑھا رہے نامزد کرے
 (واقی بر صغیر آئندہ)

(از صوفیہ شستر)

کیا بار بار یہ بہتر ہے۔ بلا لڑنے

اداسے لڑا کے بار بار لڑنا

جسے بھلا کر لڑا کے بار بار لڑنا

بڑے سے بڑے سے اور بڑے سے بڑے سے

بڑے سے بڑے سے اور بڑے سے بڑے سے

بڑے سے بڑے سے اور بڑے سے بڑے سے

وَأَسْطَةَ عِقْدِ السَّبِينِ وَ

اور ادب کے پہنڈ کرنے والے گرہ بیوں کے اور

مُقَدَّمَةَ جَيْشِ الْمُرْسَلِينَ وَ

ادب سردار لشکر پہنروں کے اور

أَفْضَلَ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ حَامِلِ

ادب تمام خلقت سے بہت افضل کے اٹھانے والے

لِوَأَيِّ الْعِزِّ الْأَعْلَى وَمَالِكِ

بلند بھند سے عزت کے اور مالک روشن

أَزْمَةَ الشَّرَفِ الْأَسْنَى شَاهِدِ

ترین تریں ہماروں زرگی کے جو اسرار

أَسْرَارِ الْأَزَلِ وَمُشَاهِدِ أَسَاقِ

ازل سے واقف اور الزار سابق

السَّابِقِ الْأَوَّلِ وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ

ازل کے ملاحظہ کرنے والے اور زبان قدم کے

الْقَدَامِ وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ وَ

بیان کرنے والے اور علم اور حلم اور حکمتوں کے

الْحِلْمِ وَالْحِكْمِ وَمُظْهِرِ

سر چشمہ اور جزوی

سِرِّ الْجُودِ الْجُزْئِيِّ وَالْكَوْنِ

کی بھیدوں کے ظاہر ہونے کی جگہ

تو اپنے قلب کا لوت
نگاہ رکھے۔

وَإِنْسَانٍ عَيْنِ الْوُجُودِ الْعَلَوِيِّ

اور موجودات علوی اور سفلی کی آنکھ

وَإِلْسْفَلِيِّ رُوحِ جَسَدِ الْكُوفِيِّينَ

کی پٹلی ہیں اور جو دونوں جہان کے جسم کی جان ہیں

وَعَيْنِ حَيَاتِ الدَّارَيْنِ السَّخَلِيْقِ

اور جو اصل ہیں حیاتی دنیا و عقبی کے مانوس کئے گئے

يَا عَلِيَّ رُتَبِ الْعُبُودِيَّةِ السَّخَقِيقِ

ساتھ بلند ترین مراتب عبودیت کے ثابت ہیں

يَا سُرَّارَ الْمَقَامَاتِ الْوُصْطَفَائِيَّةِ

ساتھ اسرار مقامات برگزیدگی کے

سَيِّدِ الْأَشْرَافِ وَجَامِعِ

بزرگوں کے سردار اور جمع ہیں

الْأَوْصَافِ الْخَلِيْلِ الْأَعْظَمِ

ان میں صفتیں دوست رکھنے کی اور

وَ الْحَبِيْبِ الْأَكْرَمِ الْمَخْصُوصِ

دوست دار ہیں بزرگ (خدائے تعالیٰ کے ساتھ)

يَا عَلِيَّ السَّرَاتِبِ وَالْمَقَامَاتِ

بلند مراتب کے مخصوص کئے گئے ہیں اور مقامات کے

السُّؤْيِدِ يَا وَضَحَ الْبُرَاهِيْنِ

تائید کئے گئے ہیں ساتھ روشن ترین دلیلوں



وَاللَّيْلَاتِ الْمُنُصُّورِ بِالرُّعْبِ

اور راتوں کے جو مسد کئے گئے ہیں ساتھ رعب

وَالْمُعْجَزَاتِ الْجَوْهَرِ الشَّرِيفِ

اور معجزات کے جوہر بزرگ ہیں

الْأَيْدِي وَالنُّورِ الْقَدِيمِ السَّرْمَدِي

ہمیشہ اور نور قدیم سرمدی

الْمُحَمَّدِي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

محمدی کے ہمارے سردار اور ہمارے مولا

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُحَمَّدِ فِي الْوَيْجَادِ

(حضرت محمد جو پسند کئے گئے ہیں پیدائش

وَالجُودِ وَالْوَجُودِ الْفَاتِحِ

اور سخاوت اور ہستی میں ابتدا کرنے والے

بِكُلِّ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ حَضَرْتِ

میں ہر ایک گواہی دینے والے اور گواہی دینے والے کے درگاہ

الْمَشَاهِدَةِ وَالشَّهُودِ نُورِ كُلِّ

مشاہدہ اور شہود میں ہر چیز کے لئے

شَيْءٍ وَهُدَاةٍ وَسِرِّ كُلِّ سِرِّ

روشنی میں اور اس کے رہنا اور بھید میں ہر بھید کے

وَسِتِّهِ الَّذِي شَقِيقَتُهُ مِنْهُ

اور روشنی اس کی وہ ہے جس میں سے اسرار نکالے



الْأَسْرَارُ وَانْقَلَبَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ

گئے ہیں اور چمکائے گئے ہیں اس سے انوار

السِّرِّ الْبَاطِنِ وَالنُّورِ الظَّاهِرِ

باطن کے بھید کے اور نور ظاہر کے

السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ

سردار کامل شروع کرنے والے مہر لگانے والے ہیں

الْأَوَّلِ الْآخِرِ الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ

اول آخر باطن ظاہر کے

الْعَاقِبِ الْعَاشِرِ التَّاهِي الْأَمْرِ

پہنچے آنے والے اٹھائے والے منہ کرنے والے امر کرنے والے

التَّاصِحِ النَّاصِرِ الصَّابِرِ الشَّاكِرِ

نصیحت کرنے والے نفرت دینے والے مہر گزار شکر کرنے والے

الْقَانِتِ الذَّاكِرِ الْمَاجِي الْمَاجِدِ

دعا کرنے والے ذکر کرنے والے مٹانے والے بزرگ

الْعَزِيزِ الْحَامِدِ الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ

غالب حمد کرنے والے ایمان والے عبادت گزار

الْمُتَوَكِّلِ الزَّاهِدِ الْقَائِمِ الْقَاعِدِ

توکل کرنے والے زاہد نماز میں کھڑے ہونے والے بیٹھنے والے

الزَّائِعِ السَّاجِدِ التَّالِعِ الشَّهِيدِ

رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے تالہ دار گواہی دینے والے



التَّوَلَّى الْحَبِيدَ الْبُرْهَانَ الْحُجَّةَ

اللہ کے دوست سزا ہے گئے حجت ہیں دلیل ہیں

الْمُطَاعِ الْمُخْتَارِ الْمُحَاضِرِ

اطاعت کئے گئے ہیں برگزیدہ عاجزی کرنے والے

الْمُخَاشِعِ الْبِرِّ الْمُسْتَنْصِرِ الْحَقِّ

زدتھی کرنے والے نیک مدد چاہنے گئے حتیٰ

السَّبِيحِ ظَهْرُ الْيَسْرِ الْمُرْمِلِ

ظاہر ہیں جو دعویوں کے چاند دو جہان کے سردار لہان اوڑھنے والے

الْمُدَّائِرِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ

کھیل پوٹن ہیمنیوں کے سردار اور

إِمَامِ الْمُتَّقِينَ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ

ہر ایمان والوں کے امام ختم کرنے والے نبیوں کے

وَ حَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ النَّبِيِّ

اور تمام دنیا کے پروردگار کے دوست ہیں برگزیدہ

الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْمُجْتَبَى

ہیمنہ اور رسول چنے ہوئے

الْحَكَمِ الْعَدْلِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ

حکم کرنے والے انصاف کرنے والے پاکیزہ خبردار

الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ الْعَزِيزِ الرَّؤُوفِ

ہمت حکمت والے بہت دانا غالب رافت والے



الرَّحِيمِ الْكَرِيمِ نُورِكَ الْقَدِيمِ

مہربان سخی (اے اللہ!) وہ تیرا از قدیم

وَ صِدَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ سَيِّدِنَا

ہے اور تیرا راستہ سیدھا (تبتائے والا) ہمارے سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولًا

اور مولا (جن کا نام نامی) محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بندہ تیرا اور رسول تیرا

وَ صَفِيكَ وَ خَلِيكَ وَ حَبِيْبِكَ وَ

ادد صفی تیرا اور خلیل تیرا اور دوست تیرا اور

وَلِيْبِكَ وَ نَيْبِكَ وَ اَمِيْنِكَ وَ

ولی تیرا اور نبی تیرا اور تیرا امین اور

دَلِيْلِكَ وَ نَجِيْبِكَ وَ نَحْبَتِكَ

تیری تدبیر کی دلیل دکھائی والا اور تیرا ہمراز اور تیرا برگزیدہ

وَ ذَخِيْرَتِكَ وَ خِيْرَتِكَ وَ اِمَامِ

اور ذخیرہ تیرا اور نختار تیرا اور نیکوں کا

الْخَيْرِ وَ قَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ

پیشرو اور نیکوں کے کھینچنے والا اور رحمت کا

الرَّحْمَةِ النَّبِيِّ الْاَوْھِي الْعَرَبِي

رسول نبی ان پروردگار کے عرب کے رہنے والے

الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْاَبْطَحِيِّ النَّكِيِّ

قبیلہ کے قریشی خاندان میں ہاشمی ابطحی مکہ میں پیدا ہوئے



الْمَدَانِي الرَّهْمَانِي الشَّاهِدَ الْمَشْهُودَ

دریہ میں دفن ہونے والے تہا میں رہنے والے امت کے گواہ دے گئے

الْوَرَى الْمُقَرَّبَ الْعَبْدَ الْمُسْعُودَ

دوست مقرب (اللہ کے) بندے بہت بڑے نیک

الْحَبِيبَ الشَّفِيعَ الْحُسَيْبَ الرَّفِيعَ

اللہ کے حبیب شفاعت کرنے والے مامیوں کے بزرگ حب والے بلند مرتبہ

الْمَلِيحَ الْبَدِيعَ الْوَاعِظَ الْبَشِيرَ

حن تکین والے نادر طرف وعظ کرنے والے جنت کی بشارت

التَّذِيرَ الْعَطُوفَ الْعَلِيمَ الْجَوَادَ

اوردوزخ سے ڈرانے والے بہت مہربان برعادت کرنے والے سستی

الْكَرِيمَ الطَّيِّبَ الْمُبَارَكَ

بزرگ پاکیزہ عجم خوشبو برکت دہنے والے

الْمَكِينِ الصَّادِقِ الْمُتَّصِدُوقِ

مہذب مرتبہ سچے ہیں سچے کے لئے

الْأَمِينِ الدَّاعِي إِلَيْكَ بِأَذْنِكَ

امانت دار تیرے حکم سے خلقت کو تیری طرف بلائے والے

السَّرَاحِ الْمُنِيرِ الَّذِي أَدْرَكَ

روشن چراغ ایسے کہ جس نے جان یا تمام دکال

الْحَقَّائِقَ بِحُجَّتِهَا وَفَاقَ الْخَلَائِقَ

اصل چیزوں کو اور ذوقیت کے لئے تمام



بِرْمَتِهَا وَجَعَلْتَهُ حَبِيبًا وَ

خلقت پر اور (اے خدا) تو نے ان کو اپنا دوست اور

تَاجِبِيَّتَهُ قَرِيبًا وَ أَدْنَيْتَهُ

بمالت قرب ان کو ہم راز بنایا اور حفاظت کرتے ہوئے

رَقِيبًا وَحَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ

تو نے ان کو نزدیک کیا اور کامل رسالت تو نے ان پر ختم کر دی

وَالدَّلَالَةَ وَالْبَشَارَةَ وَالنَّذَارَةَ

اور پوری کی راہنمائی اور خوشخبری اور ڈر سنایا

وَالنُّبُوَّةَ وَتَصَرَّتْهُ بِالرُّعْبِ

اور نبوت کو لغت دی اس کو تو نے ساتھ رعب کے

وَظَلَمْتَهُ بِالسَّحْبِ وَرَدَدْتِ

اور سختی تو نے ان کو سایہ ابر کا اور ٹوٹایا تو نے ان کے لئے

لَهُ الشَّمْسَ وَشَفَقْتَ لَهُ الْقَمَرَ

سورج کو اور ٹھوٹے کر دیا تو نے ان کے لئے چاند کو

وَأَنْطَقْتَ لَهُ الصُّبْحَ وَالظُّبَى

اور تو نے ان کے آگے سوسار کو گویا فرمایا اور ہرن

وَالذَّبَّ وَالْجُدَاعَ وَالذَّرَاعَ

اور بھیر دیا اور درخت کی شاخ کو اور بازو

وَالْجَمَلَ وَالْحَبَلَ وَالْمَدَرَ

اور اونٹ اور پہاڑ اور ڈھیلے



وَالشَّجَرِ وَالْحَجَرِ وَانْتَبَعَتْ

اور درخت اور پتھر کو اور نکال

مِنْ أَصَابِعِ الْمَاءِ الزُّلَالِ وَ

تو نے ان کی انگلیوں کو سے ہانی بیٹھا اور

أَنْزَلَتْ مِنَ الْمُنِّ بِدَعْوَتِهِ فِي

اتارا تو نے ابر سے ہانی ان کی دعا سے محظ

عَامِ الْمَحَلِّ وَالْجُدْبِ وَابِلًا

سالی میں اور برسایا بڑی بوندوں کا

الغَيْثِ وَالْمَطَرِ فَأَعْشَوْ شَبَّ

بینہ اور بارش پھر خشک زمین سے اس سے

مِنْهُ الْقُفْرُ وَالصَّخْرُ وَالْوَعْرُ

سرسبز ہو گئی اور (نیز) پتھری اور ردی زمین

وَالسَّهْلُ وَالرَّمْلُ وَالْحَجَرُ وَ

اور نرم زمین اور ریگستان اور پتھر اور

الشَّجَرُ وَالْمَدَارُ وَأَسْرَيْتَ بِهِ

درخت اور ڈھیلے اور سیر کرایا تو نے ان کو

لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى

رات کو مسجد حرام سے

الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى السَّمَوَاتِ

مسجد اقصیٰ تک (اس سے آگے پھر) بندی آسمان اور



الْعُلَىٰ إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ إِلَىٰ

سدرۃ المنتہیٰ تک (اور) اس جگہ تک کہ

قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ وَ

کان کا دو گوشہ تھا یا اس سے بھی کم اور

أَرَبَيْتَهُ الْاِيَّةَ الْكُبْرَىٰ وَ

دکھائی تو نے ان کو نشانی بڑی اور

أَنكَلْتَهُ الْغَايَةَ الْقُصْوَىٰ وَ

ان کو تو نے مرتبہ نہایت تک پہنچایا اور

أَكْرَمْتَهُ بِالْمُخَاطَبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ

اس سے باتیں کر کے اور نگہبان فرماتے ہوئے

وَالْمُشَافَهَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَالْمُعَايَنَةِ

ہوئے تو نے ان کو بزرگ بنایا اور اکرام کیا تو نے ان کو اپنے سامنے

بِالْبَصْرِ وَخَصَّصْتَهُ بِالْوَسِيلَةِ

حضور میں بلا کر اور آنکھوں سے دکھا کر اور مخصوص کیا تو نے ان کو ساتھ مقام

الْعُظْمَىٰ وَالشَّفَاعَةَ الْكُبْرَىٰ

وسیلہ بزرگ اور شفاعت کبریٰ کے

يَوْمَ الْفُرْعِ الْاَكْبَرِ فِي الْمَحْشَرِ

جس دن خوف بہت بڑا ہوگا قیامت میں

وَجَمَعْتَ لَهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ

اور اس کے لئے کلام جامع تو نے جمع فرمائی اور



جَوَاهِرَ الْحِكْمِ وَجَعَلْتَ أُمَّتَهُ

حکمتوں کے موتی (اس کے سینہ میں جمع کر دیے) اور اس کی امت کو تونے

خَيْرَ الْأُمَمِ وَعَفَّرْتَ لَهُ مَا

کل امتوں سے بہتر بنایا اور ان کے

تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ

اگلے پہلے گناہ بخش دیے اور (رسول کو) جس نے

الَّذِي بَلَغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى

تبلیغ رسالت کی اور

الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَ

امانت ادا فرمائی اور نیر خواہی کی امت کی اور

كَشَفَ الْغُمَّةَ وَحَبَى الظُّلْمَةَ

دور کیا غم کو اور روشن فرمایا اندھیرے کو

وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَبَدَ

اور کوشش فرمائی اللہ کی راہ میں اپنے رب

رَبَّهُ حَتَّى آتَاهُ الْيَقِينَ اللَّهُمَّ

کی عبادت کی یہاں تک کہ اس کی امت پر قیامت آئی۔ اے اللہ

الْبُعْثُهُ مَقَامًا مَخْمُودًا يَغْرُبُ

اکھا انہیں مقام محمود پر جس کے نئے رشک

فِيهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ

کریں گے پہلے اور پچھلے (نبی)



اللَّهُمَّ عَظِّمَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَعْلَىٰ

اے اللہ تو ان کو بزرگ کر دنیا میں ساتھ بلند

ذِكْرَهُ وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَإِبْقَاءِ

ذکر ان کے اور ساتھ غالب کرنے کے دین ان کے اور ساتھ باقی

شَرِيْعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ بِشَفَاعَتِهِ

رکھنے شریعت اس کی اور بزرگ کر اسے اعلیٰ میں ساتھ اس کی شفاعت کے

فِي أُمَّتِهِ وَأَجْرُلْ أَجْرَهُ وَمَثُوبَتَهُ

جو اپنی امت میں کرے گا اور دے تو اس کو اس کا بڑا اجر اور ثواب اس کا

وَأَيُّدُ فَضْلَهُ لِلأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ

اور پائیدار کر فضل اس کا پہلے اور پچھلے لوگوں

بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَتَقْدِيمِهِ

کے لئے مقام محمود میں اور راہنما بنا ان کو

عَلَىٰ كَأَفْوَةِ الْمُقَرَّبِينَ بِالشَّهَادَةِ

کل منزلوں پر حاضر کئے گئے لوگوں پر

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الْكُبْرَىٰ

اے اللہ اس کی بڑی شفاعت قبول فرما

وَأَرْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَآيَتِهِ

اور بلند کر اس کے عالی مراتب کو اور بخش تو انکو

سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ

ان کی حاجتیں قیامت اور دنیا میں



كَمَا اتَّيْتِ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوسٰى

جیسا کہ عطا کی ہیں تو نے (حضرت) ابراہیم اور (حضرت) موسیٰ علیہما

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ اَكْرَمِ

السلام کو اے اللہ! کر اس کو اپنے نزدیک اپنے

عِبَادِكَ عَلَيْكَ كَرَامَةً وَّ اَرْفِعْهُمْ

بندوں سے بزرگ تر اور بلند تر فرما اپنے ان

عِنْدَكَ دَرَجَةً وَّ اَعْظِمْهُمْ

ان کے درجے اور بزرگی تر کر

عِنْدَكَ خَطَرًا وَّ اَمْكِنْهُمْ

ان کا قدر اپنے پاس اور توانا تر فرما: ان کو

عِنْدَكَ شَفَاعَةً اَللّٰهُمَّ

اپنے نزدیک شفاعت کے لئے اے اللہ!

عَظْمٌ بَرْهَانُهُ وَاَفْلِحْ بِحُجَّتِهِ

بزرگ کر ان کی دلیل اور ان کی ثبوت کی دلیل ظاہر

وَاَبْلُغْهُ مَا مَوْلَاهُ فِيْ اَهْلِ بَيْتِهِ وَ

اور اس کی آرزو دیکھ ہمہنا اس کو اس کی اہل بیت اور

ذُرِّيَّتِهِ اَللّٰهُمَّ اَتَّبِعْهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ

اولاد کے بارے میں اے اللہ! اس کی اولادوں اس کی امت

وَاَقْمِهِ مَا تَقَرَّبَ بِهِ عَيْنُهُ وَاَحْزِرْهُ

سے وہ چیز بچھے سے اسکو پہنچا جس سے اس کی آنکھیں روشن ہوں اور تم سے اسکو



عَنَا حَيْرَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ

جزا نیک دے جیسا کہ جزادی تو نے ہر ایک نبی کو اس کی امت سے

وَ أَجْزَا الْأَنْبِيَاءِ كَاللَّهُمَّ حَيْرًا

اور جزا دے تو سب نبیوں کو جزا نیک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اے اللہ! ہمارے سردار محمد پر درود

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا شَاهَدْتَهُ الْأَبْصَارُ

اور سلام بھیجے جب قدر کہ دیکھیں اس کو • بینائیاں

وَسَمِعْتَهُ الْأَذَانُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

اور سنیں اس کو کان اور اس پر درود اور سلام بھیجے بقدر

عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ

گنتی ان کے جو درود بھیجیں ان پر درود اور سلام بھیجے

عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ

اس پر بقدر شمار ان کے جو درود نہ بھیجے ہوں اس پر اور

وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا تَحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ

درود اور سلام بھیجے اس پر جو تو دوست رکھتا اور پسند کرتا ہو یہ کہ

يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

درود بھیجا جاوے اس پر اور درود اور سلام بھیجے تو اس پر

كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ

جیسا کہ تو نے حکم دیا ہم کو یہ جو ان پر درود بھیجیں اور



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا

درود اور سلام بھیج اس پر جیسا کہ

يَتَّبِعِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ

چاہیے یہ کہ اس پر درود بھیجا جائے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

اے اللہ درود اور سلام بھیج اس پر

وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ نِعْمَاتِ اللَّهِ

اور اس کی آل پر بقدر نعمت اللہ کی نعمتوں کے

تَعَالَىٰ وَأَفْضَالِهِ اللَّهُمَّ

اور ان کے فضلوں کے اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

درود اور سلام بھیج اس پر اور اس کی

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْفَادِهِ

آل اور اس کے اصحاب اور اس کی اولاد

وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

اور اس کی اولاد کی اولاد اور اس کی بیبیوں اور اس کی ذریت پر

وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِثْرَتِهِ وَ

اور اس کی اہل بیت اور عترت پر اور

عَشِيرَتِهِ وَأَصْهَارِهِ وَأَمْتَانِهِ وَ

اس کے اقربا پر اور اس کے خموں پر اور اس کے دامادوں پر اور



وَاتَّبَاعِهِ وَاشْبَاعِهِ وَاجْتَابِيهِ وَ

اور اس کے تابعداروں پر اور اس کے گروہ پر اور ان کے دوستوں پر اور

أَنْصَارِهِ خَزَنَةَ أَسْرَارِهِ وَمَعَادِينِ

مددگاروں پر جو ان کے بھیدوں کے خزانے ہیں اور ان کے انوار

أَنْوَارِهِ كُنُوزِ الْحَقَائِقِ وَهُدَاةِ

کی کاہنیں ہیں حقیقتوں کے خزانے اور غفلت کے

الْخَلَائِقِ وَنُجُومِ الْإِهْتِدَاءِ لِمَنْ

راہنما اور ہدایت کے ستارے ان کے لئے جو

اِقْتَدَى بِهِمْ وَصَلَّى وَسَلِّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

ان کی پیروی کریں اور درود اور سلام بھیجنا بہت

دَائِمًا أَبَدًا وَأَرْضَ عَنْ كُلِّ الصَّعَابَةِ

ہمیشہ ہمیشہ اور راضی ہو کر ہر مصیبت سے

رَضَى سَرْمَدًا عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ

راضی ہونا ہر بار اپنی خلقت اور بمقدار رضا مندی

نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَمَدَادَ

ذاتِ اِپنی کے اور بمقدار وزن عرشِ اپنے کے اور بقدر سیاہی کلمات

كَلِمَاتِكَ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے کے اے اللہ جو جملہ رحمت بھیج تو اوپر ہمارے سردار محمدؐ

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَلِمًا ذَكَرَكَ

کے اور اوپر آل ہمارے سردار محمدؐ کے جب کہ یاد کریں تجھ کو



الذَّاكِرُونَ وَكَلِمًا سَهِي عَنْ ذِكْرِكَ

یاد کرنے والے اور جب بھول جاویں بھٹ کو تیرے ذکر سے

الْغَافِلُونَ صَلَوَةٌ تَكُونُ لَكَ رِضَاءً

غافل لوگ اور درود جو تیری رضا مندی کا باعث بنا

وَرِحْقِهِ آدَاءٌ وَلِنَا صَلَاحًا وَآيَاتِهِ

اور اس کے حق میں ادا ہمارے لئے بہتری اور دے اسے

الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ

وسیلہ اور بزرگی اور مراتب بلند

الرَّفِيعَةَ وَابْعَثَهُ الْمَقَامَ النَّحْمُودَ وَ

رفیعہ اور اعلیٰ اس کو مقام محمود پر اور

يَلَوَاءَ الْمَعْقُودَ وَالْحَوْضَ الْمَوْرُودَ وَ

نشان عقد کئے گئے پر اور حوض پر وارد کئے جاویں گے اور

صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنْ

رحمت بھیج اے رب اس کے تمام بھائیوں پر جو

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَ

نبی ہیں اور پیغمبر ہیں اور ولی ہیں اور

الصَّالِحِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ

نیک لوگ ہیں اور شہید ہیں اور صدیق ہیں

وَالْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى سَيِّدِنَا

اور فرشتے مقرب ہیں اور اوپر ہمارے سردار



الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ

شیخ محمد بن ابی محمد عبدالقادر

الْقَادِرِ الْمَكِينِ الْأَمِينِ صَلَوَاتُ اللَّهِ

(جیلانی کے جو مقام ولایت کے لیکن ہیں امین ہیں خدائے تعالیٰ)

وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ

کا درود اور سلام ان سب پر جن کا مذکور ہوا) اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رحمت اور سلام بھیج ہمارے سردار محمد پر

السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورَهُ الرَّحْمَةِ

اور سب خلقت کے پہلے ہیں نور ان کا رحمت ہے

بِالْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدَ مَا مَضَى مِنْ

دو اسٹے جہانوں کے ظہور ان کا ہشمار خلقت گذشتہ

خَلْقِكَ وَمَا بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ

کے اور جس قدر باقی ہے اور خواہ ان میں سے نیک ہوا خواہ

وَمَنْ شَقِيَ صَلَوَةٌ تَسْتَعْرِقُ الْعَدَا

بدبخت یہ ایسا درود کہ گھیر لے کنتی کو

وَنَجِيطُ بِالْحَدِّ صَلَوَةٌ لَأَغَايَةِ لَهَا

اور احاطہ کرے انہما کو وہ درود کہ نہ ہو حد اس کی

وَلَا انْتِهَاءَ وَلَا أَمَدًا لَهَا وَلَا

اور نہ انتہا اس کی اور نہ اندازہ اس کا اور نہ



انْقِضَاءَ صَلَوَاتِكَ الَّتِي صَلَّيْتَ عَلَيْهِ

پہرا ہونا اس کا درود تیرا وہ جو درود بھیجا تو نے اس پر

صَلَاةٍ مَّعْرُوضَةٍ عَلَيْهِ مَقْبُولَةٌ لَدَيْهِ

درود عرض کیا گیا اور اس کے مقبول کیا گیا اس کے پاس

مَحْبُوبَةٌ إِلَيْهِ صَلَاةٌ دَائِمَةٌ أَبَدًا وَإِمَامٌ

جو محبوب ہو اس کو درود ہمیشہ رہنے والا ساتھ ہمیشگی تیری کے

بَاقِيَةٌ أَبْقَايِكَ لِمَنْتَهَى لَهَا

باقی ساتھ بقا تیری کے جس کی انتہا نہ ہو

دُونَ عِلْمِكَ

علم تیرے کے

در سجدہ بخواند

صَلَاةٌ تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى

درود جو خوش کرے تجھ کو اور خوش کرے تیرے کو اور خوش ہو تو

بِهَا عَنَا

پر سبب اس کے ہم سے

در سجدہ بخواند

صَلَاةٌ تَسْتَجِيبُ بِهَا دُعَاءَنَا وَتُزَكِّي

ایسا درود کہ جس کے سبب تو ہماری دعا قبول فرمائے اور اس سے ہماری



بِهَآ نَفُوسِنَا وَ تَحْيِي بِهَآ قُلُوبِنَا

جانیں پاک کرے تو اور ہمارے دل اس سے زندہ فرمادے تو

درعبدہ بخواند

صَلٰوةٌ تَمْلِءُ الْاَرْضَ وَالسَّمَاءَ

وہ درود جس سے زمین اور آسمان بھر دے تو

صَلٰوةٌ تَحَلِّ بِهَآ الْعُقَدُ وَ تَفْرَجُ بِهَآ

وہ درود جس سے حل کرے تو ہماری مشکلیں اور اس سے دور کرے تو

الْكُرْبُ وَ تَقْضِي بِهَآ الْاَرْبُ وَيَجْرِي

نہایت سستیوں اور پوری ہوں اس کے سبب مرادیں اور جاری اس

بِهَآ لَطْفِكَ فِيْ اَمْرِيْ وَاْمُورِ الْمُسْلِمِيْنَ

کے سبب تیری لہریاں میرے اور تمام مسلمانوں کے کاموں میں

وَبَارِكْ لَنَا عَلٰی الدَّوَامِ وَعَافِنَا وَ

اور ہمیشہ ہم کو برکت دے اور عافیت بخش ہم کو اور

اهْدِنَا وَ اَمِدُّنَا وَ اجْعَلْنَا اِمِنِيْنَ

ہم کو ہدایت کر اور ہماری مدد فرما اور ہمیں بے خوف کر دے

وَيَسِّرْ لَنَا اَمْوَرَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوبِنَا

اور آسان کر ہمارے لئے ہمارے کام ساتھ خوشی کے ہمارے دلوں کو

وَ اَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ

اور ہمارے بدنوں کو اور سلامتی اور عافیت بخش ہم کو ہمارے



دِينَنَا وَدُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا وَتَوْفِقَنَا

دین اور ہماری دنیا میں اور ہماری آخرت میں اور توفیق کر

عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَجْمَعْنَا مَعَهُ

ہم کو کتاب اللہ اور سنت نبوی پر اور جمع کر ہم کو اس کے ساتھ

فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ عَذَابٍ بَئِيسٍ

بہشت میں بےز عذاب سخت کے

وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا غَيْرَ غَضْبَانَ وَ

در حالیکہ تو ہم سے خوش ہو بدوں غصہ کے اور

لَا تَسْكُرُ بِنَا وَآخْتِمُ لَنَا مَسْكَ

نہ آزما ہم کو اور اپنی طرف سے ہمارا خاتمہ بجز

بِخَيْرٍ وَعَافِيَةٍ بِإِمْحَانَةٍ وَشِدَّةٍ

خیر اور بغیر صحت عافیت بخش دونوں جہان

فِي الدَّارَيْنِ أَجْمَعَيْنِ خَتَمَ اللَّهُ

میں سب کو سختی سے بجا اللہ ہمارا خاتمہ

لَنَا بِالْحُسْنَى هُوَ مَوْلَانَا نِعْمَ

سبک بد کرے وہی ہمارا مولا اور اچھا

المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَصَلَّى

مولا اور اچھا مددگار ہے اور رحمت

اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدَنَا

اللہ تعالیٰ کی اوپر اس کے جو مخلقت سے بہتر ہے جو ہمارا سردار



مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

ہے نام جن کا ترجمہ اور ان کی آل اور ان کے اصحاب سب پر

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ

پاکی سے یاد کرتا ہوں میں تیرے رب کو جو پروردگار ہے بزرگی کا

عَمَّا يَصِفُونَ ۙ وَسَلَامٌ عَلَيَّ

اس سے جو بیان کرتے ہیں مشرک لوگ اور سلام اوپر

الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

پیغمبروں کے اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَصَلَّى وَسَلَّمٌ

جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور درود اور سلام ہو

تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا بِرَحْمَتِكَ

بہت بہت تیری رحمت سے

بِأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

اے زیادہ رحم کرنے والے رحم کرنے والوں کے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَقَدْ آتَيْنَاكَ

الْحُجُوجَ يَا قُوتِي



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَسَلِّ وَسَلِّمْ كَثِيرًا كَثِيرًا إِنَّهُ يَبْدَأُ

رُؤُوسِ كَبِيرٍ

أَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ

درود اور سلام ہو ادبِ تیرے اے بہتر

خَلْقِ اللَّهِ ط أَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

مخلوقات اللہ کے درود اور سلام ہو

عَلَيْكَ يَا مَكِّيَّ اللَّهُ ط أَلصَّلَاةُ

ادبِ تیرے اے مکی اللہ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قُرَيْشِيَّ اللَّهُ ط

اور سلام ہو ادبِ تیرے اے قریشی اللہ کے

أَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

درود اور سلام ہو ادبِ تیرے اے

مَدَنِيَّ اللَّهُ ط أَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

مدنی اللہ کے درود اور سلام ہو

عَلَيْكَ يَا مَنْ اخْتَارَهُ اللَّهُ ط

ادبِ تیرے اے وہ شخص کہ پسند کیا اس کو اللہ نے

أَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

درود اور سلام ہو ادبِ تیرے اے

مَنْ عَظَّمَهُ اللَّهُ ط أَلصَّلَاةُ وَ

وہ شخص کہ عظمت دی اس کو اللہ نے درود اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ ط

سلام ہو ادبِ تیرے اے خلیفہ اللہ کے



اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

درود اور سلام ہو ادب تیرے اے

حَضْرَةَ اَللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ

حاضر ہونے والے درگاہ اللہ کے درود اور سلام ہو

عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ

ادب تیرے اے برگزیدہ اللہ کے درود

وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللّٰهِ

اور سلام ہو ادب تیرے اے برہان اللہ کے

اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

درود اور سلام ہو ادب تیرے اے

رَحْمَةَ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ

رحمت اللہ کے درود اور سلام ہو

عَلَيْكَ يَا نُوْرَ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَ

درود ادب تیرے اے نور اللہ کے درود اور

وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدًا

سلام ہو ادب تیرے اے محمد

رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَ

رسول اللہ کے درود اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ

سلام ہو ادب تیرے اے صاحب بادشاہی اور



التَّاجِرِ وَالْمُعْرَاجِ وَالصَّلَاةِ

تاج اور معراج کے درود

وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ

اور سلام ہو اوپر تیرے اے صاحب

الْحَوْضِ الْكَوْثَرِ وَالصَّلَاةِ وَ

حوض کوثر کے درود اور

السَّلَامِ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ

سلام ہو اوپر تیرے اے صاحب

الشَّفَاعَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

شفاعت کے درود اور سلام ہو

عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ النِّعْمَةِ

اوپر تیرے اے صاحب نعمت کے

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا

درود اور سلام ہو اوپر تیرے اے

خَاتَمِ النَّبِيِّ وَالرِّسَالَةِ

ختم کرنے والے نبوت اور پیغمبری کے

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا

درود اور سلام ہو اوپر تیرے اے

نَبِيِّ الْمَدِينِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

نبی مدینے والے درود اور سلام



عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْحَرَمِيِّ ط الصَّلَاةُ

ہو اور پرتیرے اے نبی حرم والے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْعَرَبِيِّ ط

اور سلام ہو اور پرتیرے اے نبی عرب کے رہنے والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ

درود اور سلام ہو اور پرتیرے اے نبی

الْحِجَازِيِّ ط الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

حجاز والے درود اور سلام ہو اور پرتیرے اے

نَبِيَّ التَّهَامِيِّ ط الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

نبی تہامہ والے درود اور سلام ہو

عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْهَمَاسِيِّ ط الصَّلَاةُ وَ

اور پرتیرے اے نبی ہامسٹی درود اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْقَرَشِيِّ ط

سلام ہو اور پرتیرے اے نبی قریشی

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ

درود اور سلام ہو اور پرتیرے اے نبی

الزَّرَكِيِّ ط الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

پاک درود اور سلام ہو اور پرتیرے

يَا نَبِيَّ الْأُمِّيَّ ط

اے نبی امی



درود اکبر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

سُزود مع ساق نام اللہ کے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اے اللہ درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الرُّسُلَيْنِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

رسولوں کے اے اللہ درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّبِيِّينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں نبیوں کے اے اللہ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِينَ ط

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں مومنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اے اللہ درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُتَّقِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

پرہیزگاروں کے اے اللہ درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّالِحِينَ ط

محمد کے جو سردار ہیں اصلاح کرنے والوں کے



اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اے اللہ درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُصْطَفِيْنَ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

اصلاح کرنے والوں کے اے اللہ درود بھیج ادھر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصّٰدِقِيْنَ ط اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں سچوں کے اے اللہ

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصْطَفِيْنَ ط

درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں تصدیق کرنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اے اللہ درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں

الصّٰبِرِيْنَ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

صبر کرنے والوں کے اے اللہ درود بھیج ادھر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشّٰهِيْدِيْنَ ط

محمد کے جو سردار ہیں گواہوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں

الْمَشْهُوْدِيْنَ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

حاضرین کے یا الہی درود بھیج ادھر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرَابِطِيْنَ ط

محمد کے جو سردار ہیں جوڑنے والوں کے



أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُنَجِّينَ ۚ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

نجات دینے والوں کے یا الہی درود بھیج ادھر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفْلِحِينَ ۚ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں نجات پانے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُجِيبِينَ ۚ

درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں قبول کرنے والوں کے

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں

الزَّاهِدِينَ ۚ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

زاہدوں کے یا الہی درود بھیج ادھر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّائِبِينَ ۚ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں توبہ کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَائِفِينَ ۚ

درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں ڈرانے والوں کے

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں

الْعَاطِفِينَ ۚ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

رحم کرنے والوں کے یا الہی درود بھیج ادھر



مُحَمَّدًا سَيِّدَ الْبَكِيْنَ ط اَللّٰهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں رونے والوں کے (خوشگ) یا الہی

صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاقِيْنَ ط

درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں تمام کرنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں

الزَّاِكِعِيْنَ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

رکوع کرنے والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدًا سَيِّدِ السَّاجِدِيْنَ ط اَللّٰهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں سجدہ کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصَلِّيْنَ ط

درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں نمازیوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں

الْقَارِيْنَ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

قاریوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدًا سَيِّدِ الْقَاعِدِيْنَ ط اَللّٰهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں بیٹھنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَزْهَادِيْنَ ط

درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں زاہدوں کے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج محمد کے جو سردار ہیں

الْمُؤَقِنِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

یقین کرنے والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدًا سَيِّدِ الْمُنَاجِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں ہم رازوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِمِينَ ط

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں قیامت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْحَافِظِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

حافظوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدًا سَيِّدِ الْجَائِعِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں بھوکوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِدِينَ ط

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں حمد کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُرْشِدِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

مرشدوں کے یا الہی درود بھیج اوپر



مُحَمَّدًا سَيِّدًا التَّائِبِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں دیکھنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّارِكِينَ ط

درود بھیج ادب محمد کے جو سردار ہیں برکت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج ادب محمد کے جو سردار ہیں

الْمُوحِدِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

موحدوں کے یا الہی درود بھیج ادب

مُحَمَّدًا سَيِّدِ الْقَائِلِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں بولنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَنْصُورِينَ ط

درود بھیج ادب محمد کے جو سردار ہیں مدد سے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج ادب محمد کے جو سردار ہیں

التَّائِبِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

مدد کرنے والوں کے یا الہی درود بھیج ادب

مُحَمَّدًا سَيِّدِ الظَّالِمِينَ ط

محمد کے جو سردار ہیں سب سے مندوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج ادب محمد کے جو سردار ہیں



الْوَارِثِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

وارثوں کے یا الہی درود بھیج ادھر

مُحَمَّدًا سَيِّدَ الْمُظْفَرِيْنَ ط

محمد کے جو سردار ہیں فتح دیے گئوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں

الْمَرْزُوقِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

رزق دیے گئوں کے یا الہی درود بھیج ادھر

مُحَمَّدًا سَيِّدَ الرَّاعِبِينَ ط

محمد کے جو سردار ہیں رحمت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُشْفِقِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

شفقت کرنے والوں کے یا الہی درود بھیج ادھر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّائِحِينَ ط

محمد کے جو سردار ہیں ہجر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں

التَّوَابِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

توبہ کرنے والوں کے یا الہی درود بھیج ادھر



مُحَمَّدًا سَيِّدًا الْمَلَكُوتَيْنِ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں الفتنہ کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْتَابِينِ ط

درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں رجوع کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں

الْعَابِدِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عابدوں کے یا الہی درود بھیج ادھر

مُحَمَّدًا سَيِّدِ الْمَسَاكِينِ ط

محمد کے جو سردار ہیں مسکینوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُؤَافِقِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

موافقوں کے یا الہی درود بھیج ادھر

مُحَمَّدًا سَيِّدِ الْمُرَافِقِينَ ط

محمد کے جو سردار ہیں نرمی کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں

الْفَنَائِيْنَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

مراد کو پہنچنے والوں کے یا الہی درود بھیج ادھر



مُحَمَّدًا سَيِّدَ الْعَالَمِينَ ط اللَّهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں عمل کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ ط

درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں پناہ لینے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں

التَّاجِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

نجات پانے والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدًا سَيِّدِ الظَّاهِرِينَ ط

محمدؐ کے جو سردار ہیں پاکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں

الظَّاهِرِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

غالب ہونے والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدًا سَيِّدِ التَّابِعِينَ ط

محمدؐ کے جو سردار ہیں تابعداروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں

الْفَضْلِيِّينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

فضیلت والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر



مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّاكِرِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں شکر کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَطَهِّرِينَ ط

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں یا کی پسند کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُطِيعِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تا بعد اوروں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَرْحُومِينَ ط

محمد کے جو سردار ہیں رحم کئے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمَغْفُورِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

مغفوروں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الطَّالِبِينَ ط

محمد کے جو سردار ہیں طالبوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمَطْلُوبِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

مطلوبوں کے یا الہی درود بھیج اوپر



مَحْمَدًا سَيِّدًا الْمُطَهَّرِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں پاک کئے گئیوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدًا الصَّوَامِينَ ط

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں روزہ رکھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدًا

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْقَوَامِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

قیام کرنے والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مَحْمَدًا سَيِّدًا الْأَوَابِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں رجوع کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدًا الْأَوَاصِلِينَ ط

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں طائے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدًا

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُحِبِّينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

محبت کرنے والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مَحْمَدًا سَيِّدًا الْمُحِبُّوِيْنَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں دوستوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدًا الْمُرُودِينَ ط

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں وارد ہونے والوں کے



أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمَقْبُولِينَ ط أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

مقبولوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَشْتَاوِينَ ط

محمد کے جو سردار ہیں مشتاقوں کے

أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْعَاشِقِينَ ط أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

عاشقوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَعْشُورِينَ ط

محمد کے جو سردار ہیں معشوقوں کے

أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْعَارِفِينَ ط أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

عارفوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَاعِظِينَ ط

محمد کے جو سردار ہیں داعظوں کے

أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں



الْمَذْكُورِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

ذکر کئے گیوں کے یا الہی درود بھیج ادھر

مُحَمَّدًا سَيِّدَ الْمُتَعَمِّينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں تو انہوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُعْظَمِينَ ط

درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں عظمت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدًا

یا الہی درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُبَلِّغِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

داغلوں کے یا الہی درود بھیج ادھر

مُحَمَّدًا سَيِّدَ الْمُتَادِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں منادی کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدَ الْمُؤَدِّينَ ط

درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں ادب کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدًا

یا الہی درود بھیج ادھر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُفَسِّرِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

تفسیر کرنے والوں کے یا الہی درود بھیج ادھر

مُحَمَّدًا سَيِّدَ الْمُعْلَمِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں سکھانے والوں کے یا الہی



صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ ط

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں عقلمندوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُبَازِلِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

فوج کرنے والوں کے یا الہی جو درود بھیج اوپر

مُحَمَّدًا سَيِّدِ الْأَجْوَدِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں سچوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَبِّدِينَ ط

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں عبادت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُسْتَبْعِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ

سننے والوں کے یا الہی درود بھیج

عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقَرَّبِينَ ط

اوپر محمد کے جو سردار ہیں مقربوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُحَرِّصِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ

رغبت دلانے والوں کے یا الہی درود بھیج



عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرَجِّحِينَ ط

اد پر محمد کے جو سردار ہیں خوش کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اد پر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُرْتَبِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ

نزدیکی والوں کے یا الہی درود بھیج

عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَقَابِلِينَ ط

اد پر محمد کے جو سردار ہیں رو برو بیٹھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اد پر محمد کے جو سردار ہیں

الْمَسْبُوحِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ

سبوح پڑھنے والوں کے یا الہی درود بھیج

عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقَدِّسِينَ ط

اد پر محمد کے جو سردار ہیں پاکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اد پر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُرْتَلِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے والوں کے یا الہی درود بھیج اد پر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَأْمُولِينَ ط

محمد کے جو سردار ہیں امید دلائے گیوں کے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اوپر حضرت محمدؐ کے جو سردار ہیں

الْمُحَقِّقِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تحقیق کرنے والوں کے یا الہی درود بیچ اوپر حضرت

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَدَقِّقِينَ ط اللَّهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں دانشمندوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الدَّاعِينَ ط

درود بیچ اوپر حضرت محمدؐ کے جو سردار ہیں دعوت دینے والوں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

کے یا الہی درود بیچ اوپر حضرت محمدؐ کے جو سردار ہیں

الصَّائِمِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

روزہ داروں کے یا الہی درود بیچ اوپر حضرت

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْسِنِينَ ط اللَّهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں نیکوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزَّكَاةِ ط

درود بیچ اوپر حضرت محمدؐ کے جو سردار ہیں پاکوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اوپر حضرت محمدؐ کے جو سردار ہیں

الْكَامِلِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کاملوں کے یا الہی درود بیچ اوپر حضرت



مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّالِفِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں پہلوں کے یا اللہ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسْئُومِينَ ط

درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں پچھلوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْمَعْصُومِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

پاکوں کے یا الہی درود بیچ اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَحْفُوظِينَ ط

حضرت محمد کے جو سردار ہیں حفاظت کئے گئیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

السَّالِفِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

شقاقت کرنے والوں کے یا الہی درود بیچ اوپر حضرت

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَشْقُوعِينَ ط

محمد کے جو سردار ہیں شقاقت کئے گئیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْمُنْعَظِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عظمت والوں کے یا الہی درود بیچ اوپر



مُحَمَّدًا سَيِّدًا الْمَوْلَيْنِ ط اللَّهُمَّ

حضرت محمدؐ کے جو سردار ہیں الفت کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدًا الْأَظْهَرِينَ ط

درود بیچ ادھر حضرت محمدؐ کے جو سردار ہیں غائبوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدًا

یا الہی درود بیچ ادھر حضرت محمدؐ کے جو سردار ہیں

الْمُتَّصِدَاتِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ

تصدیق کرنے والوں کے یا الہی درود بیچ ادھر

عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدًا الْمَوْفِقِينَ ط

حضرت محمدؐ کے جو سردار ہیں توفیق دے ہوؤں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدًا

یا الہی درود بیچ ادھر حضرت محمدؐ کے جو سردار ہیں

الْعَافِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

معاف کرنے والوں کے یا الہی درود بیچ ادھر حضرت

مُحَمَّدًا سَيِّدًا الْمَقْبُولِينَ ط اللَّهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں مقبولوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدًا الْمُتَّفَكِّرِينَ ط

درود بیچ ادھر حضرت محمدؐ کے جو سردار ہیں غماگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدًا

یا الہی درود بیچ ادھر حضرت محمدؐ کے جو سردار ہیں



الْمَسْرُورِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

خوش کئے ہوؤں کے یا الہی درود بیچ اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْزَلِينَ ط اللَّهُمَّ

حضرت محمد کے جو سردار ہیں انارنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْمُتَّازِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

مستازوں کے یا الہی درود بیچ اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَمِينِينَ ط اللَّهُمَّ

حضرت محمد کے جو سردار ہیں امن والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْمُتَوَاضِعِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ

تواضع کرنے والوں کے یا الہی درود بیچ

عَلَيَّ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَحِّلِينَ ط

اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں عزت کئے جیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار

الْمُمَجِّدِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ

ہیں عالیشان والوں کے یا الہی درود بیچ



عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَفَاخِرِينَ ط

ادب حضرت محمد کے جو سردار ہیں فخر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ ادب حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْمُتَعَمِّلِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عمل کرنے والوں کے یا الہی درود بیچ ادب

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَوَسِّمِينَ ط

حضرت محمد کے جو سردار ہیں داع نگاہوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ ادب حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْقَاسِمِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تقسیم کرنے والوں کے یا الہی درود بیچ ادب

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْتَمِينَ ط اللَّهُمَّ

حضرت محمد کے جو سردار ہیں مقیموں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسَافِرِينَ ط

درود بیچ ادب حضرت محمد کے جو سردار ہیں مسافروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ ادب حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْمُهَاجِرِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

مہاجروں کے یا الہی درود بیچ ادب حضرت



مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُظْفَرِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں غلبہ کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْغَافِرِينَ ط

درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں بخشنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْمُحِبِّينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

محبت کرنے والوں کے یا الہی درود بیچ اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّابِحِينَ ط اللَّهُمَّ

حضرت محمد کے جو سردار ہیں تسبیح پڑھنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ ط

درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں جہانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْقَائِمِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

زمانہ برداروں کے یا الہی درود بیچ اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّقِينَ ط

حضرت محمد کے جو سردار ہیں نترتیا کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں



الرَّاضِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

راضی ہونے والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّؤُوفِينَ ط اللَّهُمَّ

حضرت محمد کے جو سردار ہیں مہربانی کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّحِدِينَ ط

درود بھیج اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں متحد پڑھنے والوں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

کے یا الہی درود بھیج اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْمُسْتَغْفِرِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

بخشش مانگنے والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَفِّفِينَ ط اللَّهُمَّ

حضرت محمد کے جو سردار ہیں سوال سے بچنے والوں کے

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِلِينَ ط

یا الہی درود بھیج اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں بوجھ اٹھانے والوں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ شَفِيعِ

کے یا الہی درود بھیج اوپر حضرت محمد کے جو شفیع ہیں

الْمَذْنُوبِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

گنہگاروں کے یا الہی درود بھیج اوپر حضرت

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَدِينِ ط

محمد کے جو سردار ہیں دینداروں کے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْمُرْضِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

راضی کرنے والوں کے یا الہی درود بیچ اوپر حضرت

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَادِحِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں صفت کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَرْفَعِينَ ط

درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں بلند مرتبہ والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْمُبَشِّرِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

خوشخبری دینے والوں کے یا الہی درود بیچ اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السُّدْرِيِّينَ ط اللَّهُمَّ

حضرت محمد کے جو سردار ہیں ڈرانے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْتَدِرِينَ ط

درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں تندریر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْمَشِيئِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

پہرورش کرنے والوں کے یا الہی درود بیچ اوپر حضرت



مُحَمَّدًا سَيِّدَ الْمُخْلِصِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں مخلصوں کے یا الہی :

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدَ الذَّاكِرِينَ ط

درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں ذکر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدَ

یا الہی درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْخَاضِعِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

عاجزی کرنے والوں کے یا الہی درود بیچ اوپر حضرت

مُحَمَّدًا سَيِّدَ الْخَاشِعِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں عثوق کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدَ الرَّاجِينَ ط

درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں امیدواروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدَ

یا الہی درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْمُؤْمِلِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

تامل کرنے والوں کے یا الہی درود بیچ اوپر

مُحَمَّدًا سَيِّدَ الْأَوْرَعِينَ ط اللَّهُمَّ

حضرت محمد کے جو سردار ہیں پرہیزگاروں کے یا الہی

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَيِّدَ الْخَالِصِينَ ط

درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں خالصوں کے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اور حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْمُتَوَرِّعِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

پرستیزگاروں کے یا الہی درود بیچ اوپر حضرت

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَطْهَرِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں پاکوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَكْرَمِينَ ط

درود بیچ اور حضرت محمد کے جو سردار ہیں عزت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اور حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْمُكَرَّمِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

شریفوں کے یا الہی درود بیچ اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْجَبِينَ ط اللَّهُمَّ

حضرت محمد کے جو سردار ہیں بھنائے جانے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَشْجَعِينَ ط

درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں بہادروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْأَفْضَلِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

فضیلت والوں کے یا الہی درود بیچ اوپر حضرت



مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

محمد کے جو سردار ہیں نور دالوں کے یا انہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَعْرُوفِينَ

درد و بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں نیکو کاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا انہی درد و بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

السَّالِكِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

سالکوں کے یا انہی درد و بیچ اوپر حضرت

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُعَاهِدِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

محمد کے جو سردار ہیں عہد کرنے والوں کے یا انہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْهَادِينَ

درد و بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سید ہیں ہدایت پانے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا انہی درد و بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْمُهْدِيِّينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

راہ پانے والوں کے یا انہی درد و بیچ اوپر حضرت

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفْتَسِحِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

محمد کے جو سردار ہیں روشنی پکڑنے والوں کے یا انہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُمْكِنِينَ

درد و بیچ اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں مرتبہ پانے والوں کے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر حضرت محمد کے جو سردار ہیں

الْفَاتِحِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

فزیت پانے والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر حضرت

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاتِحِينَ ط اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں کھولنے والوں کے یا الہی درود

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ الْأَرْضِ إِذَا

بھیج اوپر حضرت محمد کے جو ساتھ زمین کے جب بدلی

بَدَلَتْ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

جاوے یا الہی درود بھیج اوپر حضرت محمد

مُحَمَّدٍ مَعَ الصُّدُورِ إِذَا

کے ساتھ سینوں کے جب

حُصِّلَتْ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

کھولے جاویں یا الہی درود بھیج اوپر حضرت محمد

مَعَ الْحَسَنَاتِ إِذَا أَظْهَرَتْ ط

کے ساتھ نیکیوں کے جب ظاہر کی جاویں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ

یا الہی درود بھیج اوپر حضرت محمد کے ساتھ

السَّيِّئَاتِ إِذَا أُبْدِلَتْ ط اللَّهُمَّ

برائیوں کے جب کہ بدلی جاویں یا الہی



صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ السَّيِّئَاتِ

درود بیچ ادب حضرت محمد کے ساتھ برائیوں کے جب کہ

إِذَا أُنزِلَتْ طَلَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

چھوڑ دی جاویں یا الہی درود بھیجی او پر حضرت

مُحَمَّدٍ مَعَ الْحَاجَاتِ إِذَا قُضِيَتْ ط

محمد کے ساتھ حاجتوں کے جب پوری کی جاویں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ

یا الہی درود بیچ ادب حضرت محمد کے ساتھ

الْجَنَّةِ إِذَا أُزْلِفَتْ ط اللَّهُمَّ

بہشت کے جب کہ قریب کی جاوے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ النَّفْسِ إِذَا

درود بیچ ادب حضرت محمد کے ساتھ جانوں کے جب کہ

زُوِّجَتْ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

طائی جاویں یا الہی درود بیچ ادب حضرت محمد کے

الْأَمِينِ عَلَى وَحْيِكَ صَلَوَةٌ لَّا

جو امانت دار ہیں ادب وحی تیری کے درود ہے

حَدَّ لَهَا وَلَا مُنْتَهَى ط اللَّهُمَّ

انتہا اور ہے حد یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ

درود بیچ ادب حضرت محمد کے ساتھ اس حد کے جو بتو



لَكَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کو معلوم ہے اور ادھر اولاد سردار ہمارے حضرت محمد کے اور

بَارِكُ وَسَلِّمْ ط اللَّهُمَّ صَلِّ

برکت اور سلام بھیج یا الہی درود بھیج

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ أَضْعَافَ مَا صَلَّيْتَ

ادھر حضرت محمد کے کئی گنا اس چیز کا کہ درود پڑھیں

عَلَيْهِ جَمِيعِ الْمُصَلِّينَ مِنْ

ادھر اس کے سب نمازی

السَّابِقِينَ وَالْمُؤَخَّرِينَ أَضْعَافًا

اگے - اور پیچھے دو گنا

مِثْرًا عَفْةً أَلْفَ أَلْفِ أَلْفٍ فِي

دو گنا کئی لاکھ لاکھ بھیج

أَلْفِ أَلْفٍ وَصَلِّ كَذَلِكَ عَلَيَّ

کئی لاکھ کے اور درود بھیج اسی طرح ادھر

جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

تمام نبیوں اور رسولوں کے

وَعَلَىٰ مَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ

اور ادھر مقرب فرشتوں کے اور

عَلَىٰ أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ ط

ادھر تمام اہل طاعت تیرے کے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

یا الہی درود بھیجی اور حضرت محمد کے اور اوپر

أٰلِ مُحَمَّدٍ يَّعَدُّ لِكُلِّ شَيْءٍ عَرَفِي

آل حضرت محمد کے ساتھ کتنی ہر چیز کے جو نیچ

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ

دنیا اور آخرت کے ہے رحمتیں اللہ کی

وَمَلَائِكَتِهِ وَأَنْبِيَآئِهِ وَرُسُلِهِ

اور فرشتوں اس کے کی اور نبیوں اس کے کی اور رسولوں اس

وَجَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

کے کی اور تمام خلقت اس کے کی اور حضرت محمد کے جو سردار

الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَ

ہیں رسولوں کے اور پھینوا پرمہیزگاروں کے اور

خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَقَائِدِ الْعُرَى

ختم کرنے والے نبیوں کے اور پیش رو سفید پیشانی

الْمُحَجَّلِينَ وَشَفِيعِ الْمَذْنُبِينَ وَ

پہنچ کلیانوں کے اور شفاعت کرنے والے گنہگاروں کے

رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَلَى

اور رسول ہیں پر ہر دگار جہانوں کے اور اوپر آل

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ

اس کی کے اور اصحاب اس کے کے اور اولاد اس کی کے اور گھر



بَيِّنَتِهِ وَأَحْفَادِهِ أَجْمَعِينَ ط

داؤں اس کے کے اور نواسوں اس کے کے تمام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ

یا الہی درود بھیج اوپر جبرائیل اور میکائیل

وَأِسْرَافِيلَ وَعِزْرَارَئِيلَ وَمُسْكَرٍ

اور اسرافیل اور عزرائیل اور مسکر

وَنَكِيرٍ وَالْمَلَائِكَةَ الْمُقْرَبِينَ

اور نکیر اور مقرب فرشتوں کے

وَعَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَالْكَرَامِ

اور اوپر اٹھانے والوں عرش کے اور کرام

الْكَاتِبِينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کاتبین کے یا الہی درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مردانہ ہمارے حضرت محمد کے اور اوپر آل سردار ہمارے

مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صَلَوةً

حضرت محمد کے اور برکت نازل کر اور سلام بھیج ایسا درود کہ

تَنْجِيئِنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ

خلاصی دے ہم کو ساتھ اسی کے تمام خوفوں اور

وَالْآفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ

آفتوں سے اور پورا کرے تو واسطے ہمارے ساتھ اس



الْحَاجَاتِ وَ تَطَهَّرْنَا بِهَا مِنْ

کے تمام حاجتوں کو اور پاک کر سے ہم کو ساتھ اس کے تمام

جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرَفَعْنَا بِهَا

برائیوں سے اور بلند کر سے ہم کو ساتھ اس کے

عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ نَبْلَغْنَا

نزدیک اپنے اعلیٰ درجوں پر اور پہنچائے ہم کو

بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ

ساتھ اس کے منزل مقصود پر تمام

التَّخَيَّرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ

نیکیوں کے بیچ زندگی کے اور بعد مرنے کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى

یا الہی درود بھیج اور حضرت محمد کے اور اوپر

اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ وَ صَلِّ

آل حضرت محمد کے اور برکت بھیج اور سلام اور درود

عَلٰى جَمِيعِ الرُّسُلِ الْكٰثِرِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَ

بھیج اور تمام نبیوں اور رسولوں کے اور

عَلٰى عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ

اوپر بندوں اپنے نبیوں کے اور سلام بھیج سلام

كَثِيْرًا كَثِيْرًا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ

بہت بہت یا الہی تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ



بِحَقِّ هَذِهِ الصَّلَاةِ أَنْ تَكْرِمَنِي

سے بطفیں اس درود کے یہ کہ عزت دے مجھے

بِرُؤْيَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ فِي

سابقہ دیدار محمد کے جو خاتم نبیوں کے ہیں نبیوں

الْمَنَامِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَلِوَالِدِي

خواب کے اور یہ کہ بخشے تو مجھے اور میرے ماں باپ

وَالْأُسْتَاذِيَّ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ

کو اور استادوں میرے اور تمام مومن مردوں اور

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

مومن عورتوں اور مسلمان مردوں اور مسلمان

الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَ

عورتوں کو جو زندہ ہیں ان سے اور مرد سے اور

تُحَيِّرَنِي مِنْ عَذَابِكَ وَتُوجِبَ

بجائے مجھے عذاب اپنے سے اور واجب کہ واسطے

لِي رِضْوَانَكَ وَسَلِّمْ سَلِيمًا كَثِيرًا

میرے رضامندی اپنی اور سلام بیچ سلام بہت

كَثِيرًا طِبْرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ


بہت سابقہ رحمت اہی کے اسے بڑے رحم کرنے والے رحم کرنے

والوں کے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَقِيَ الْإِلَهَ

يَا قَبِيضَ



دُرُودُ تَفْسِيحِيَّةٍ

تہذیب (از صفحہ گزشتہ)

اپنی برصغیر پادشہ اور
 اگر سربازوں پر طبعاً تواریخ
 اس کی باقی نہ رہے ہو تو
 ۳۱۳ء اور ۳۱۳ء
 راز اس پر شکستہ ہوں
 اور اگر ایک ہزار تہذیب
 کا اور در سے آج کے
 حساب در سے پادشہ

بِهِ الرَّغَائِبُ وَحَسُنَ الْخَوَاتِمُ
 میں مرغوب چیزیں اور نیک انجام
 وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ
 اور سیراب کئے جاتے ہیں۔ بادل ان کے
 الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ إِلَهٍ وَصَحْبِهِ
 تصدق میں اور ان کی آرا اظہار اور اصحاب کبار
 فِي كُلِّ لَمْعَةٍ وَنَفْسٍ
 درودِ شلام بھیج ہر لمحہ اور ہر سانس میں بقدر اپنی
 بَعْدَ مَعْلُومٍ لَّكَ
 معلومات کے

اگر کسی کو وقت کم دینا
 ہو تو ۴۴۴۴۴۴۴۴
 پڑھے۔ عاقلاً بن جائے
 نہ بھی برصغیر میں اس
 کا پڑھنا اگر کبیر زانیہ
 امام سبزوئی نے اس کے
 فتاویٰ میں فرمایا ہے



کہ جو کوئی اس درود کو
 پڑھے۔ رونق میں فرمائی
 ہو۔ نمونوں سے سائی ہو
 اور دل کی مراد پوری ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَقِيََ الْإِلَهَ اللَّهُ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ آلِهِ وَصَلِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَلَىٰ آلِهِ

وَ صَلِّ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَبَدًا أَبَدًا

درود نماز

استاد درود تاج

اس کے فضائل دو انہماک
قریبین اور حبیبت قریبین میں
اس کے اول القرآن مجید بیان
کیا جاتا ہے۔ اقل القرآن

مغنی زیارت پر مثال الخضر
صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو دل و
جان سے لکھا ہو۔ تو دل و جان
میں شیب جو کبھی از غنیمت
نہایت با دوستی اور

نہایت با دوستی اور
پہن کر ایک سو تر بار اس
درود شریف کو پڑھ کر
رہے۔ کیا وہ راتیں اسی
طرح پڑھے انشاء اللہ
قائل شریف زیارت پر
بخط صلی اللہ علیہ وسلم سے
شرف ہوگا۔

دُرُودُ تَاجِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ

اے اللہ! رحمت کا طہ نازل فرما اوپر سردار ہمارے اور مالک

مَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَاحِبِ التَّاجِ

ہمارے حضرت محمد صاحب کے جو صاحب تاج اور معراج

وَ الْبِعْرَاجِ وَ الْبَرَّاقِ وَ الْعَلَمِ

اور براق اور نشان کے ہیں

دَافِعِ الْبَلَاءِ وَ الْوَبَاءِ وَ

دور کرنے والے سختی اور وبا اور

الْقَحْطِ وَ الْمَرَضِ وَ الْوَلَمِ

قطع سالی اور بیماری اور درد کے

اِسْمِهِ مَكْتُوبٌ مَرْفُوعٌ

نام ان کا لکھا گیا ہے بلند کیا گیا ہے

مَشْفُوعٌ مَّنْقُوشٌ فِی التَّوْحِ

شفاعت قبول کیا گیا ہے نقش کیا گیا ہے توح لوح اور

دوم - واسطہ صفائی قلب



کے اور برفنا زمین کے
سات مرتبہ اور بیست
بہر اور نشان کے تین تین
مرتبہ درود رکھے
سوم - دفع جو اور کسب
میں اور صفی اللہ اور دوا
اور نفاذ چیک و ترہ و دم
کے واسطے کیا دہ مرتبہ دم
چھارم - دشمنوں کا سد
اور غلاموں وغیرہ کے شر سے
مغزور رہنے کے لئے
پنجم - رخ و اہم اور غلام
رہیں برفنا نشان کے ایلیں
ششم - بشارت رزق کے
واسطے سات بار برفنا دم
(باقی صفحہ ۱۹۹)

دوسرے سات بار برفنا دم
(باقی صفحہ ۱۹۹)

تہذیب
(از صفحہ گزشتہ)

دائے بائیں جدول پر سات

بار دم کر کے اور دراز ایک

خبر سے کھلائے اور پھر بعد

اس سے ہم بستر و خندا

کے نقل سے فرزند صالح پیدا

ہوگا

ہشتم : اگر حاملہ عورت کو

پچھون نکلنا پھر مو۔ تو سات

دن تک سات در تین ہوتا تو

اس پر دم کر کے کھلائے

نہم : مواصلات
عالمہ و مطلوب کے اور
مقصود کے واسطے نصت
شب کے بعد ذکر کر کے



چالیس مرتبہ دل سے پڑھے
انشاء اللہ مطلب دلی اس
کا جملہ حاصل ہوگا۔ یہ سب
شرط طیبہ ہے۔ کہ کسی کان
بزرگ سے اجازت لیا
پڑھے۔ تاکہ نادمہ حاصل
ہو۔ درود شریف یہ ہے
اللہم صل علی سیدنا
ومولینا محمد وعلیٰ صاحب
الکناز والمعراج... الخ

وَ الْقَلِمِ ط سَيِّدِ الْعَرَبِ وَ
تسلم کے سردار ہیں عرب اور بیچم
الْعَجَبِ ط جِسْمُهُ مُتَدَسِّسٌ
کے جسم ان کا بہت پاک ہے
مُعَطَّرٌ ط مَطْهَرٌ مَنُورٌ فِي
خوشبودار پاکیزہ روشن ہے بیچ
الْبَيْتِ وَ الْحَرَمِ ط شَمْسِ
خانہ کعبہ اور حرم کے آفتاب ہیں
الضُّحَى ط بَدْرِ الدُّجَى ط صَدْرِ
پہاشت کے ماہتاب ہیں اندھیری راتوں کے ، مسند نظیں ہیں
الْعُلَى ط نُورِ الْهُدَى ط كَهْفِ
بلندیوں کے ، نور ہیں راہ راست کے ۔ پناہ ہیں غلوقات
الرَّزَى ط مِصْبَاحِ الظُّلَمِ ط
کے چسراخ ہیں تاریکیوں کے
جَمِيلِ الشِّيمِ ط شَفِيْعِ الرَّامِ ط
نیک عادتوں والے بخشنے والے امتوں کے
صَاحِبِ الْجُودِ وَ الْكِرَمِ ط وَ
صاحب بخشش اور بزرگی کے اور
اللَّهُ عَاصِمَهُ وَ جَبْرِيلُ خَادِمُهُ
اللہ نگہبان ہے ان کا اور جبریل خدمت گزار ہے ان کا

وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهُ ط وَالْمِعْرَاجُ

اور براق سواری ہے ان کی اور معراج سفر

سَفَرُهُ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهَى

ہے ان کا اور سدرۃ المنتہی (جو پیری ہے آسمان پر) مقام ہے

مَقَامُهُ وَقَابِ قَوْسَيْنِ

ان کا اور قباب قوسین (دصال الہی) مطلوب

مَطْلُوبُهُ وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودُهُ

ہے ان کا اور مطلوب مقصود ہے ان کا

وَالْمَقْصُودُ مَوْجُودُهُ سَيِّدِ

اور مقصود ان کے پاس موجود ہے سردار

الْمُرْسَلِينَ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ

رسولوں کے ہر سب نبیوں کے

شَفِيعِ الْمَذْنُوبِينَ اَنْبِيَا

بمثنائے واسے گنہگاروں کے خنوار

الْعَرِيبِينَ رَحْمَةِ اَللّٰعَالَمِينَ

مسافروں کے رحمت واسطے جہانوں کے

رَاحَةِ الْعَاشِقِينَ مَرَادِ الْمُشْتَاقِينَ

موجب آرام عاشقوں کے مرادشتاقوں کے

شَمْسِ الْعَارِفِينَ سِرَاجِ السَّالِكِينَ

آفتاب خدا شناسوں کے چراغ راہ خدا پر چلنے والوں کے



مِصْبَاحِ الْمُتَّقِينَ وَحِبِّ الْفُقَرَاءِ

پہرے مہترہوں کے دوست رکھنے والے محتاجوں

وَالْعُرْبَاءِ وَالْمَسَاكِينِ سَيِّدِ

اور مسافروں اور مفلسوں کے سردار

الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ

جن و انس کے نبی مکہ معظمہ اور مدینہ شریف کے پیشوا

الْقِبْلَتَيْنِ وَسَيِّدِنَا فِي الدَّارَيْنِ

ہیت المقدس اور کعبہ کے وسیلہ ہمارے بیچ دنیا اور آخرت کے

صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ مَحْبُوبِ

صاحب مرتبہ مقدار دو کمانوں کے محبوب پروردگار

رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ

دو مشرقوں اور دو مغربوں کے

جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا

نانا امام حسن رضا اور امام حسین رضا کے مالک ہمارے

وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ أَبِي الْقَاسِمِ

اور مالک جن و انس کے، کنیت ابو القاسم نام

مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ نُورٍ مِّنْ

محمد بیٹے عبد اللہ کے ایک نور ہیں

نُورِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الْمُشْتَاقُونَ

اللہ کے نور سے اسے ماشفقو نور جمال



يُنُوِّرُ جَمَالَہٗ صَلَوَاتُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ

آں حضرت کے درود بھیجو اور ان کے اور ان کی اولاد کے

وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَامُ السَّلَامِ

اور ان کے باروں کے اور سلام بھیجو بہت سلام



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَاقِيَ إِلَّا بِاللهِ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ مُحَمَّدِي

وَسَلِّ وَسَلِّمْ كَثِيرًا كَثِيرًا أَبَدًا أَبَدًا

دُرُودُ الْكَمِي

سلطان المشائخ حضرت
عبدونور علی گاہی
سے لاکھ بار درود پڑھنے سے
چونکہ اس قدر پڑھنے میں تمام
دین گذر جاتا تھا۔ اور امور
سجنت کے لئے وقت کا
کوئی وقت باقی نہ رہتا
اس وجہ سے سیاست مملکت
انتظام سلطنت میں فتور
آیا۔ ایک رات خواب میں
علیہ السلام نے سلطان محمود کو
پتہ نیرت سے سرخ زونیا
اور یوں ارشاد فرمایا کہ
اے محمود! اس درود کو
۱۰۰ بار پڑھو تا مریض کے

دُرُودُ لَکِیْ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

اے اللہ! رحمت کاملہ اور سلام نازل فرما اوپر سردار ہمارے

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

اور مالک ہمارے محمد صاحب کے اور اوپر آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ رَحْمَةِ اللّٰهِ ط

سردار ہمارے حضرت محمد صاحب کے بشمار رحمت اللہ کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اے اللہ رحمت کاملہ اور سلام نازل فرما اوپر سردار ہمارے

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

اور مالک ہمارے حضرت محمد صاحب کے اور اوپر آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ فَضْلِ

سردار ہمارے حضرت محمد صاحب کے بشمار بخشش اللہ

اللّٰهِ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

اے اللہ رحمت کاملہ اور سلام نازل فرما اوپر



ایک مرتبہ پڑھا گیا کہ درود تیس
ایک مرتبہ پڑھے گا تو آپ
طیلتگا۔ اور جس قدر ایک سے
زیادہ پڑھے گا یہاں تک اس قدر
ناگھون تک تو آپ پائے گا
اور تو اس کی برکت سے میری
عبت میں کامل ہو جائے گا۔
چنانچہ سلطان محمود نے حسب
الارشاد سرد درود عالم علی اللہ
طیروا کہ وہ ہم روز اس
درد شرف کا اور فرشتوں کی
اور اس نرس سے ہم شخص کو
پہن کر دی۔ پس ایک مرتبہ پڑھا
لاکھ درود کا تو آپ پائے
درد تو آواز اور سرد ہو اس
واسطے اس کا نام درود
لکھا رکھا گیا ہے۔

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

سرदार ہمارے اور مالک ہمارے حضرت محمد صاحب کے اور اوپر

اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدِ خَلْقِ

آل سرदार ہمارے حضرت محمد صاحب کے بشمار مخلوق اللہ

اللَّهُ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کے اے اللہ رحمت کاملہ اور سلام نازل فرما اوپر

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

سرदार ہمارے اور مالک ہمارے حضرت محمد صاحب کے اور اوپر

اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدِ عِلْمِ

آل سرदार ہمارے حضرت محمد صاحب کے بشمار علم

اللَّهُ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اللہ کے اے اللہ! رحمت کاملہ اور سلام نازل فرما اوپر

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

سرदार ہمارے اور مالک ہمارے حضرت محمد صاحب کے اور اوپر

اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدِ كَلِمَاتِ

آل سرदार ہمارے حضرت محمد صاحب کے بشمار کلموں

اللَّهُ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اللہ کے اے اللہ! رحمت کاملہ اور سلام نازل فرما اوپر

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

سرदार ہمارے اور مالک ہمارے حضرت محمد صاحب کے اور اوپر



اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَبَعَدَدِ كَرَمِ

آل سردار ہمارے حضرت محمد صاحب کے بشارت بخشش

اللَّهُ ط اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

اللہ کے اے اللہ! رحمت کاملہ اور سلام نازل فرما اوپر

سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی

سردار ہمارے اور مالک ہمارے حضرت محمد صاحب کے اور اوپر

اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَبَعَدَدِ حُرُوفِ

آل سردار ہمارے حضرت محمد صاحب کے بشارت حروف

كَلَامِ اللَّهِ ط اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کلام اللہ کے اے اللہ رحمت کاملہ اور سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ

فرما اوپر سردار ہمارے اور مالک ہمارے حضرت محمد صاحب کے اور

عَلٰی اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَبَعَدَدِ

اوپر آل سردار ہمارے حضرت محمد صاحب کے بشارت

قَطْرَاتِ الْاُمُطَارِ ط اَللَّهُمَّ صَلِّ

بوندوں بارشوں کے اے اللہ رحمت کاملہ اور

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

سلام نازل فرما اوپر سردار ہمارے اور مالک ہمارے حضرت محمد صاحب

وَ عَلٰی اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَبَعَدَدِ

کے اور اوپر آل سردار ہمارے حضرت محمد صاحب کے بشارت



أُورَاقِ الْأَشْجَارِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ

پتوں درختوں کے اے اللہ رحمت کاملہ اور سلام

وَ سَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

نازل فرما اوپر سردار ہمارے اور مالک ہمارے حضرت محمد صاحب

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَرْبَعَدٍ

کے اور اوپر آل سردار ہمارے حضرت محمد صاحب کے بشمار

رَمَلِ الْيَقَارِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

ریت میدانوں کے اے اللہ رحمت کاملہ اور سلام

سَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

نازل فرما اوپر سردار ہمارے اور مالک ہمارے حضرت

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد صاحب کے اور اوپر آل سردار ہمارے حضرت محمد صاحب

بَعْدَ مَا خَلِقَ فِي الْبَحَارِ ط اللَّهُمَّ

کے بشمار ان چیزوں کے جو پیدا کی گئی ہیں بیچ دریاؤں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

رحمت کاملہ اور سلام نازل فرما اوپر سردار ہمارے اور مالک ہمارے حضرت

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد صاحب کے اور اوپر آل سردار ہمارے حضرت محمد صاحب کے

بَعْدَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ ط اللَّهُمَّ

بشمار دانوں اور پھلوں کے اے اللہ !



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

رحمت کاملہ اور سلام نازل فرما اوپر سردار ہمارے اور مالک ہمارے

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حضرت محمد صاحب کے اور اوپر آل سردار ہمارے حضرت محمد صاحب کے

بَعْدَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ط اللَّهُمَّ

بشمار رات اور دن کے اے اللہ رحمت کاملہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اور سلام نازل فرما اوپر سردار ہمارے اور مالک ہمارے

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حضرت محمد صاحب کے اور اوپر آل سردار ہمارے حضرت محمد صاحب

بَعْدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ

کے بشمار ان چیزوں کے کہ اندھیرا کیا جن پر رات نے اور روشنی

أَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ ط اللَّهُمَّ صَلِّ

ڈالی ان پر دن نے اے اللہ رحمت کاملہ اور

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

سلام نازل فرما اوپر سردار ہمارے اور مالک ہمارے حضرت محمد صاحب کے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

اور اوپر آل سردار ہمارے حضرت محمد صاحب کے بشمار ان

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

لوگوں کے جنہوں نے آپ پر درود بھیجا اے اللہ رحمت کاملہ اور سلام نازل



عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

فرما اوپر سردار ہمارے اور مالک ہمارے حضرت محمد صاحب کے اور اوپر

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ لَمْ

آل سردار ہمارے حضرت محمد صاحب کے بشمار ان لوگوں کے جنہوں

يُصَلِّ عَلَيْهِ ۖ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نے درود نہیں بھیجا اے اللہ رحمت کاملہ اور سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ

اوپر سردار ہمارے اور مالک ہمارے حضرت محمد صاحب کے اور

عَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

اوپر آل سردار ہمارے حضرت محمد صاحب کے بشمار

أَنْفُسِ الْخَلَائِقِ ۖ اللَّهُمَّ صَلِّ

ساتوں مخلوقات کے اے اللہ! رحمت کاملہ اور

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

سلام نازل فرما اوپر سردار ہمارے اور مالک ہمارے حضرت محمد

وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

صاحب کے اور اوپر آل سردار ہمارے حضرت محمد صاحب کے بشمار

نُجُومِ السَّمَوَاتِ ۖ اللَّهُمَّ صَلِّ

ستاروں آسمانوں کے اے اللہ رحمت کاملہ اور سلام

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

نازل فرما اوپر سردار ہمارے اور مالک ہمارے حضرت محمد صاحب



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِبْعَادُ

کے اور اوپر آل سردار ہمارے حضرت محمد صاحب کے بشمار

كُلِّ شَيْءٍ عَرَفِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ

کل چیزوں کے جو پہنچ دنیا اور آخرت کے موجود ہیں

صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰی وَمَلَائِكَتِهِ وَ

رحمتیں خدا کے برتر کی اور اس کے فرشتوں کی اور

أَنْبِيَآئِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيعِ الْخَلَائِقِ

اس کے نبیوں کی اور اس کے رسولوں کی اور تمام مخلوق کی نازل ہو جو

عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ اِمَامِ

اوپر سردار رسولوں کے اور پیشوا ہمہ گیر گاروں

الْمُتَّقِينَ وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمَجْلِبِينَ

کے اور بچنے والے طرف بہشت کے روشن پیشانی اور ہاتھوں اور

وَشَفِيْعِ الْمُنْذِرِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

پاؤں والوں کو اور بخشنے والے گناہگاروں کے سردار ہمارے اور

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ

مالک ہمارے حضرت محمد صاحب کے اور اوپر ان کی آل کے اور پیاروں ان کے

أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّاتِهِ وَ أَهْلِ

کے اور بیویوں ان کی کے اور اولاد ان کی کے اور گھر والوں ان کے کے

بَيْتِهِ وَ أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ ۗ

اور اہل طاعت تیرے کے سب پر



مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ

جو رہتے والے آسمانوں اور زمینوں کے ہیں

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

ساتھ رحمت تیری کے اسے نہایت مہربان اور بڑی بخشش کرنے والے

وَيَا كَرِيمَ الْكَرَمِيِّنَ وَصَلَّى اللّٰهُ

بخشش کرنے والوں کے اور درود بھیجے اللہ برتر

تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

اوپر سردار ہمارے حضرت محمد صاحب اور ان کی آل اور

وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ط وَسَلَّم

ان کے یاروں پر سب پر اور سلام بھیجے

تَسْلِيمًا دَائِمًا أَبَدًا كَثِيرًا

سلام بھیجتا ہمیشہ ہر وقت بہت

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

اور سب تعریف اللہ کے واسطے ہے جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقْوَمُ إِلَّا اللَّهُ

بِالْحَيِّ يَا قَلْبِيُّ



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا يَا أَبَدَ ابْدَانِ

قَصِيدَةُ بَرَكَةٍ

اس کے مصنف حضرت امام صالح محمد بن حسن البوصیری ہیں۔ اس قصیدہ شکر کی تصنیف کا سبب یہ ہے کہ جب شیخ رحمہ اللہ فالج کے مارض میں مبتلا ہوئے اور نصیب بدین ان کا حسن حرکت سے بیمار ہو گیا۔ تو آخر الامر لوگوں کے علاج معالجہ سے باپس ہو کر اس قصیدہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھا اور جناب

قصیدہ بركة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الفصل الاول في ذكر عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم

فصل پہلی ہے بیان میں عشق و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

اَمِنْ تَذَكِّرْ جَيْرَانَ يَذِي سَلَمٍ

کیا تجھے ذی سلم کے ہمسائے یاد آئے

مَرَجَتْ دَمْعًا جَرَى مِنْ مَقْلَةٍ رِيْدَمٍ

کہ آنسو ملا ہوا خون تیزی آنکھوں سے جاری ہے

أَمْ هَبَّتِ الرِّيحُ مِنْ تَلْقَاءِ كَاظِمَةٍ

یا کاظمہ کی طرف سے ہوا آگئی

أَوْ أَوْمَضَ الْبُرُقُ فِي الظُّلْمَاءِ مِنْ إِضْمٍ

یا اضم سے اندھیری رات میں بجھل چمکی

فَمَا لِعَيْنِكَ اِنْ قُلْتَ اَكْفَأَ هَمَاتًا

تیزی آنکھوں کو کیا ہوا کہ منع کرنے سے اور روتی امیں

وَمَا لِقَلْبِكَ اِنْ قُلْتَ اسْتَفْقَ بِهِمْ

اور تیرے دل کو کیا ہوا کہ اسے تو کہتا ہے افاقہ میں آ، تو اور بخیر ہو جاتا ہے

کی مدح میں لکھا اور جناب باری تعالیٰ کے دربار میں اپنے مرض کے ازالہ کے واسطے اس کو پڑھنے پر فرار دیکھتے ہوگی رات میں تھا ایک خالی مکان میں جناب عنایت و طلب



عائیت پڑھنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ان پر نیند غالب ہوئی۔ اور خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت سے شرف ہو کر اپنی بیماری کے دفع ہونے کے واسطے دعا کے طلبگار ہوئے۔ یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دست مقلوب پر لکھنے کے اظہار توفیق تھی۔ پھر کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عیب کی برکت سے توفیق ہو کر ان کو شفا کا لہجہ لکھنے کا شیخ اپنی کسی حاجت کے لئے بارگاہ کو روانہ ہوئے، تو ان میں ان کے سامنے فرمایا میں ان کے سامنے (باقی برصغور آئندہ)

ہیں۔ آپ مجھ سے کون سا
 قصیدہ سننا چاہتے ہیں۔
 مدینہ کے گما، کرجیں
 کی ابتداء میں امن
 تہذیبیوں۔ ان
 ہے۔ شیخ نے تعجب
 ہو کر کہا۔ واہ شاہ اب
 تک میرے اس قصیدہ
 کے کوئی شخص نہیں

أَيْحَسِبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مِنْكُمْ

کیا عاشق یہ سمجھتا ہے کہ محبت چھپی رہنے والی ہے

مَا بَيْنَ مَسْجِدِ مِنهٖ وَمَضْطَرِمٍ

اس حال میں کہ آنسو جاری ہیں اور دل سے شعلے نکلتے ہیں

لَوْلَا الْهَوَى لَمْ تَرِقْ دَمْعًا عَلَى طَلِّ

اگر تو عاشق نہ ہوتا تو ٹیسوں پر نہ روتا

وَلَا أَرِقْتَ لِذِكْرِ الْبَانِ وَالْعَلَمِ

اور درخت بان اور علم کے ذکر سے بے تاب اور بیقرار نہ ہوتا

فَكَيْفَ تَنْكَرُ حَتَّىٰ بَعْدَ مَا شَهِدَاتُ

عشق کا انکار تو کیونکر کر سکتا ہے جب تجھ پر گواہی دے دی

بِهِ عَلَيْكَ عَدْوٌ وَالذَّمُّعُ وَالسُّقْمُ

دوڑنے گواہوں نے کہ وہ آنسو اور بیمار ہونا ہے

وَأَثَبَتْ الْوَجْدُ حَظِيَّ عِبْرَةٌ وَضَنِيٌّ

اور ثابت کر دے عشق نے دو خط آنسوؤں اور لڑائی کے

مِثْلَ الْبَهَارِ عَلَى خَدَّيْكَ وَالْعَنَمِ

تیرے رخساروں پر مانند گل زرد اور شاخ سرخ کے

نَعْمُ سَرَى طَيْفٍ مِّنْ أَهْوَىٰ فَأَرْهَنِي

اگرچہ ہے مجھے اس کا خیال آگیا جسے میں چاہتا ہوں اس لئے مجھے رقت ہوئی

وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَاتِ يَا لَأَلَمِ

اور محبت لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے



بواجب کو نام نہ
 کس سے بنا ہے۔
 دوہین نے کہا فتویٰ
 قسم میں نے اس کو
 رات کو تم سے سنا تھا
 کہ جب تم نے اس کو
 خواب میں جاب توں
 خواب میں پوچھا۔
 اندھلی اندھلیوں
 کے حضور میں پوچھا
 اور جاب رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم اس کے
 سنتے ہیں ایسے توجیب
 ہوئے تھے کہ جس کی رات
 تم کو سنا کامل غنابت
 فرمائی، جب شیخ نے یہ
 قصیدہ درویش کو دیا۔
 (باقی برصغیر)

(باقی برصغیر)

تبعیہ جاریہ صوفیوں کو
 ہے آگے

نویہ باز لوگوں پر کھل
 اور اس کی برکت
 عام طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔

میرا ذریعہ تصدیق صاحب
 ذریعہ کے پاس پہنچا۔ اور
 وہ اس کو اس قدر مبارک
 سمجھنے لگے کہ کوششیں کیا

تھے۔ اور یہ بھی مروی
 ہے کہ سعد الدین قادری
 جو ذریعہ برصوفت کے
 نائب تھے بہت شدید
 الٹی ناپینا ہو گئے تھے
 خواب میں ان کو ایک
 بزرگ نے فرمایا:

يَا لَيْسِي فِي الْهُوَى الْعُذْرِي مَعْدَرَةٌ
 اے مجھے ملامت کرنے والے عشق میں مجھے معذور رکھ
 مَيِّئِي إِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصَفْتُ لَمْ تَلَمْ
 اگر تو منصف ہوتا تو مجھے ملامت نہ کرتا
 عَدَّتْكَ حَالِي وَلَا سِرِّي بِمُسْتَتِرٍ
 میرا سرا رکھتا ہے کھل گیا اب میرا راز سخن چینیوں سے نہیں چھپنے والا
 عَنِ الْوَشَاةِ وَلَا ذَا أُرِي بِمُنْحَسِمٍ
 اور نہ میرا درد موقوف ہونے والا ہے
 مَحْضَتِي النُّصْحَ لَكِنْ لَسْتُ أَسْمَعُهُ
 تو نے مجھے اچھی نصیحت کی لیکن میں کب سنتا ہوں
 إِنَّ الْمَهَبَ عَنِ الْعُدَّالِ فِي دَصَمٍ
 عاشق نصیحت کرنے والوں کی طرف سے بہرہ ہوتا ہے
 إِنْ نِيَّ اتَّهَمْتُ نَصِيحَةَ الشَّيْبِ فِي عُذْرِي
 میں نے بڑھاپے کی نصیحت کو جھوٹ جانا ملامت کرنے میں
 وَالشَّيْبُ أَبْعَدُ فِي نَصْحٍ مِنَ التَّهَمِ
 حالانکہ وہ تہمت سے بید سچا نصیحت کرے تو اس سے
الفصل الثاني
 یہ فصل دوسری ہے
وَيُذَمُّ مَنَعُ هَوَى الْنَفْسِ
 باز رکھنے میں خواہش نفسانی سے اپنے کو



کہ میرا ذریعہ سے قصیدہ
 بردہ سے کہ اپنی دونوں
 آنکھوں پر لکھ کر صبح
 کے وقت سعد الدین
 نے ذریعہ برصوفت کی
 خدمت میں جا کر اس
 خواب کو بیان کیا
 اور اس قصیدہ کو لکھا
 میں قسمت و غور نیت
 اپنی آنکھوں پر لکھ کر
 خداوندی نے اس کی
 دلالت سے ان کو شفا
 لانا طلب فرمایا۔

فَإِنَّ أَمَّا رَتِي يَا لَسُوِّعٍ مَا أَلْعَطَتُ

میرے نفس امارہ نے نصیحت نہ مانی

مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيرِ الشَّيْبِ وَالْهُدَامِ

اپنی جہالت کے سبب سے بڑھا ہے اور کبرسنی کی

وَلَا أَعْدَتُ مِنْ أَلْفَعْلِ الْجَبِيلِ قَدَايَ

اور میں نے اس کی مہمانی نہ کی اپنے عملوں سے

ضَيْفِ الْمَرْبِدِ أَسَى غَيْرِ مُحْتَسِمِ

ایسا مہمان جو میرے سر پہ آیا اور میں نے اس کی توقیر نہ رکھی

لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَرَى مَا أَوْفَرَهُ

اگر میں جانتا کہ میں ایسے مہمان عزیز کی توقیر نہ کروں گا

كَتَمْتُ سِرًّا أَبْدَأُ إِلَى مِنْهُ بِأَلْكَمِ

تو جو میرا راز کھل گیا ہے اُسے چھپاتا میں خضاب سے

مَنْ لِي بِدَرْجِمَاحٍ مِنْ غَوَايِنِهَا

اب ایسا کون ہے جو میرے نفس سرکش کو سرکشی سے باز رکھے

كَمَا يَدْرَجِمَاحُ الْخَيْلِ يَا لِلْجَمِ

جیسے گھوڑوں کو گھام سے روک لیتے ہیں

فَلَا تَرْمِي بِالْمَعَاصِي كَسْرَ شَهْوَتِهَا

تو گناہوں سے نفس کی آرزوئیں نہیں توڑ سکتا

إِنَّ الطَّعَامَ لَيَقْوَى شَهْوَةَ النَّهَمِ

کیونکہ کھانا تو اور قوت دیتا ہے اشتہا کو



وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تَهْمَلَهُ شَبَّ عَلَى

اور نفس تو مانند بچہ کے ہے جب تک اُسے دودھ پلاتے جاؤ گے

حَيْبِ الرِّضَاعِ وَإِنْ لَفِطْمُهُ يَنْقَطِمُ

پئے جائیگا اور جب چھوڑا دوئے تو چھوڑ دے گا

فَاَصْرَفُ هَوَاهَا وَحَاذِرُ أَنْ تَوَلِّيَهُ

اسکو اسکی آرزوؤں سے روک اور خبردار اس پر حرص و ہوا کو غالب نہ ہونے دیجو! جہاں

إِنَّ الْهَوَىٰ مَا تَوَلَّى يَصُورُ أَوْ يَصْمُ

حرص و ہوا غالب ہوتی ہے تو مار ڈالتی ہے یا عیب دار کر دیتی ہے

وَرَايِعَهَا وَهِيَ فِي الْأَعْمَالِ سَائِمَةٌ

اور اس کی نگہبانی کر کہ وہ مانند جانور چرنے والے کے ہے

وَإِنْ هِيَ اسْتَحَلَّتِ الْبُرْعَىٰ فَلَا تَسِمُ

اور اگر وہ چراگاہ کو لٹیز جائے تو اس کو پھر نے نہ دے

كَمْ حَسَنْتُ لِدَاةٍ لِلْمَرْءِ قَاتِلَةٌ

اس نفس نے بار بار لذت کو اچھا سمجھا اور وہ انسان کیلئے قاتل ہوئیں

مَنْ حَيْثُ لَمْ يَدِرْ أَنَّ السَّمَّ فِي الدَّسَمِ

کیونکہ اس نے نہ جانا کہ چکنائی میں زہر ہے

وَإِخْشِ الدَّسَائِسَ مِنْ جَوْعٍ وَمِنْ شَبَعٍ

اور خوف کر کہ بری چیزوں سے جو جھوکے رہنے اور پیٹ بھرنے کے لئے سے پیدا ہوتی ہیں

فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِنَ التَّخَمِ

اور اکثر جھوکا رہنا برا ہوتا ہے بہت کھا لینے سے



وَأَسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدِ امْتَلَأَتْ

اور قصداً دفع کر آنسو ان آنکھوں سے جو بھر گئی ہیں

مِنَ السَّخَارِمِ وَالزُّمْحِمَةِ التَّدَامِ

حرام سے اور اپنے پر فرض جان ننگہبانی آنکھوں کی حرام سے

وَخَالَفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَأَعْصِمَا

اور خلاف کر نفس اور شیطان کا اور ان کی نافرمانی کر

وَأِنْ هُمَا مَحْضَاكَ النَّصْحَ فَإِنَّهُمْ

اگرچہ بچھ کر نصیحت خالص سمجھائیں تو اس کو جھوٹ یقین کر

فَلَا تَطْعُ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا

اور ان کی اطاعت نہ کر کہ وہ دشمن اور حاکم میں

فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكْمِ

اور تو جانتا ہے دھن اور حاکم کے فریب کو کہ کیسا بد ہے

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ قَوْلٍ بِإِعْمَالِ

الہی توبہ ایسے قول سے جس پر خود عمل نہ کرے

لَقَدْ سَبْتُ بِهِ سُلَيْمَانَ عِزِّي عَقَمَ

یہ تو ایسا کیا میں نے جیسے با بچھ کے واسطے فرزند بتایا میں نے

أَمْرُكَ الْخَيْرَ لَكِنْ مَا أَتَمَرْتُ بِهِ

میں نے بچھ نیک کرنے کو کہا اور خود میں نے ہی نہ کی

وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتَقَمَّ

اور جب میں خود مستقیم نہ ہوا تو میرا کہنا کیا بچھ کو استقامت دے گا



وَلَا تَزَوَّدْتُمْ قَبْلَ الْمَوْتِ نَائِلَةٌ

ہائے میں نے مرنے سے پہلے آخرت کا قوشہ نہ تیار کیا نفسوں سے

وَلَمْ أَصِلْ سِوَى فَرْضٍ وَلَمْ أَصُمْ

اور نہ کبھی سوا فرض نماز کے اور فرض روزہ کے اور کچھ کیا

الفصل الثالث

فصل تیسری ہے

رَفِي مَدْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تقریب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحْيَى الظَّلَامَ إِلَى

میں نے ظلم کیا اس نبی کی سنت پر جس نے راتوں کو اس قدر عبادت کی

أَنْ أَشْتَكْتُ قَدَمَاهُ الضَّرْمِ مِنْ وَرَمٍ

کہ پاؤں مبارک درم کہ آئے سوج سوج کر

وَسَدَّ مِنْ سَعْيٍ أَحْشَاءَهُ وَطَوَى

اور باندھا اور بیٹھا ساتوں کے سبب اپنے پیٹوں کو

تَحْتِ الْجَبَارَةِ كَشْحًا مَثَرَفَ الْأَدَمِ

پتھر سے ایسے شک مبارک کو کہ نہایت نازک جلد تھا

وَرَأَوْتُهُ الْجِبَالَ الشَّمَّ مِنْ ذَهَبٍ

اور اپنے پہاڑ سونے کے بن کر آئے کہ آپ کو مائل کہیں

عَنْ نَفْسِهِ فَإِذَا هِيَ أَيَّمَا شَمَمٍ

اپنی طرف سو آپ نے کچھ التفات نہ کیا اور اپنی ہمت عالی رکھی



وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضَرُورَتُهُ

اور بہت مضبوط کر دیا آپ کے زہد کو پہاڑوں سے آپ کی ضرورت نے

إِنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَى الْعِصْمِ

بے شک ضرورت نہیں غلبہ کرتی ہے عصمت الہی پر

وَكَيْفَ تَدْعُوا إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةَ مَنْ

اور کیونکر دنیا کی طرف مائل کرے ضرورت اس ذات اقدس کو

لَوْلَا لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَامِ

کہ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا بھی نہ ہوتی

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ

سودہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے سردار اور جن اور انسان کے سردار

وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

اور دونوں فریقوں عرب اور عجم کے سردار

نَبِيِّنَا الْأَمْرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدًا

ہمارے نبی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے کوئی نہ

أَبْرَفِي قَوْلٍ لِأَمْنِهِ وَلَا نَعَمٍ

سچا نہیں "نہیں" اور "ہاں" بولنے میں

هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ

وہی ہیں اللہ کے ایسے حبیب کہ ان کی شفاعت کی امید ہے

رَكْلٌ هَوَّلٌ مِنَ الْهَوَالِ مُقْتَحِمٌ

ہر ایک خوف کے وقت جو آنے والے خوف میں



دَعَا إِلَى اللَّهِ فَالْمُسْتَسْكُونَ بِهِ

انہوں نے اللہ کی طرف بلا یا جس نے ان کا دامن پکڑا

مُسْتَسْكُونَ بِحَبْلِ عَيْرٍ مُنْفَصِمٍ

تو گویا ایسی مضبوط رسی پکڑی ہے جو کبھی ٹوٹے نہیں

فَاقَ التَّيَّبِينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خَلْقٍ

نبیوں پر فوق لے گئے خلقت اور حلق میں

وَلَمْ يَدَاؤُهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ

اور اور نبی نہ ان کے علم کو پہنچ سکے اور نہ کرم کو

وَكُلُّهُمْ مِّنْ رَّسُولِ اللَّهِ مَلْسُومٌ

اور سب انبیاء آپ سے اتاس کرتے ہیں جیسے

عَرُفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْقًا مِّنَ الدَّيْمِ

دریا سے ایک چلو یا مینہ سے ایک گھونٹ پانی کا

وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ

اور آپ کے روبرو کھڑے ہونے والے ہیں اپنے رقبہ سے

مِنْ نُّقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحَكْمِ

بسبب آپ کے علم کے ایک نقطہ یا حکمتوں سے ایک حکمت حاصل کرنے کے

فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ

سو وہی ہے کہ کمالات ظاہری و باطنی ان پر ختم ہیں

ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِيًّا التَّسْمِ

پھر حبیب بنا لیا ہے ان کو خلقت کے پیدا کرنے والے نے



مُنْزَلَةٌ عَنْ شَرِيكَ فِي مَحَاسِنِهِ

اپنی خوبیوں میں شریک سے منزه ہیں

فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ عَيْرٌ مُنْقَسِمٌ

سوان میں جو جوہر حسن ہے وہ بے تقسیم ہے

دَعْوَمَا دَعَتْهُ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمْ

جو نصاریٰ اپنے نبی میں کہتے ہیں وہ تو نہ کہہ

وَاحْكُمُ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتِكِمُ

اور جس قدر چاہے آپ کی مدح میں کہہ اور سن

وَالنَّسَبُ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ

اور جس قدر چاہے آپ کی ذات کو شرف سے نسبت دے

وَالنَّسَبُ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عَظَمٍ

اور جس قدر چاہے آپ کے رتبہ سے بزرگی کو منسوب کرے

فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ

چونکہ رسول اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے

حَدًا فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِقَمٍ

جو کوئی کہنے والا اپنے منہ سے ظاہر کرے

لَوْ نَا سَبَتْ قَدْرَهُ أَيَاتُهُ عِظَمًا

اگر آپ کے رتبہ کے مطابق آپ کے معجزے ہوتے بزرگی میں

أَحْبَبِي أَسْمُهُ حِينَ يُدَاعَى دَارِسُ الرَّحْمِ

تو آپ کے نام سے زندہ ہو جائیں بوسیدہ ہڈیاں جب بلائی جائیں



لَمْ يُمْتَحِنَا بِمَا تَعَى الْعُقُولُ بِهِ

آپ نے ہم پر احکام شریعت اس قدر نہیں رکھے کہ جن سے عاجز رہیں عقولیں

خَرُّمًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهَم

ہم پر کمال شفقت فرمائی تو ہم نہ شک میں پڑے نہ حیران ہوئے

أَعْيَى الْوَرَى فَهَمَّ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يَرَى

آپ کے کلمات کے دریافت کرنے میں ساری خلقت عاجز رہ گئی

لِقُرْبٍ وَالْبُعْدِ فِيهِ غَيْرُ مَنْفَعِم

پس نہیں دکھائی دیتا قرب اور بُعد میں سوا اپنے فہم کے بجز کے

كَالشَّمْسِ تَطْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنَ الْبُعْدِ

جیسے آفتاب کہ آنکھوں کو دور سے چھوٹا معلوم ہوتا ہے

صَغِيرَةً وَتَكِلُ الْظَّرْفُ مِنْ أُمَّم

اور دیکھو تو آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں

وَكَيفَ يَدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ

اور کیونکر دریافت کرے آپ کی حقیقت دنیا میں

قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلُّوا عَنْهُ بِالْحَلَمِ

جو قوم کہ سوتی ہے اور خواب میں تسلی کئے ہوئے ہے

فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ

سو علم کی راہنمائی تو اتنی ہے کہ وہ بشر ہیں

وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ

اور بے شک وہ اللہ کی ساری مخلوق سے بہتر ہیں



وَكُلُّ أُمَّي آتَى الرُّسُلَ الْكِرَامِ بِهَا

اور جس قدر معجزے تمام انبیاءِ عظیم السلام لائے ہیں

فَإِنَّمَا أَتَّصَلْتُ مِنْ نُورِهِ بِهَمِّ

سو بے شک آپ کے نور سے اُن کو ملے ہیں

فَإِنَّ شَمْسَ فَضْلِهِمْ كَوَاكِبُهَا

کیونکہ آپ فضل کے آفتاب ہیں اور سب انبیاء و ستارے ہیں

يُظْهِرُنْ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ

کہ جہالت کی تاریکی میں اس آفتاب کا نور لوگوں کو دکھا رہے ہیں

حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ فِي الْكُونِ عَمَّ هَذَا

یہاں تک کہ جب آفتاب طلوع ہوا ہدایت عام ہو گئی

هَذَا الْعَالَمِينَ وَأَحْيَتْ سَائِرَ الْأُمَمِ

جہان میں اور تمام امتیں زندہ کر دیں

أَكْرَمُ بِخَلْقِ نَبِيِّ زَانَهُ خَلْقِ

صل علی کیا بزرگ ہے آپ کی صورت جس کو خلقِ عظیم نے

بِالْحُسْنِ مُشْتَبِلِ بِالْبَشَرِ مَتَّسِمِ

زینت دی ہے کہ حسنِ جہا جلوہ گر ہے اور تازہ روئی جہا روح افزا ہے

كَالزَّهْرِ فِي تَرْفٍ وَالْبَدْرِ فِي شَرْفِ

تازگی میں جیسے شگوفہ اور شرف میں جیسے چودھویں رات کا چاند

وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ وَالذَّهْرِ فِي هَمِّ

بخشش میں دریا کے مانند اور ہمت میں دہر کے مثال



كَانَتْهُ وَهُوَ قَرْدٌ فِي جَلَالَتِهِ

اور جلالت میں اکیلے ایسے جیسے بڑے لشکر کے ساتھ ہوں

فِي عَسْكَرِ حَيْبٍ تَلْقَاهُ وَفِي حَشَمٍ

حیب دیکھو تو شان و شوکت اور دیرہ ایسا

كَانَتْهَا اللَّهُ لَوْ أَلْمَكُونُونَ فِي صَدَافٍ

اور حیب بات کریں مسکرائیں، تو دیر مکنون جیسے سیدپ میں سے ظاہر ہوں

مِنْ مَعْدِي فِي مَنْطِقٍ مِّنْهُ وَمَبْتَسِمٍ

ایک نطق کی کان اور ایک تبسم کی کان دونوں کے موقی ہیں

لَا طَيْبَ يَعْذِلُ تَرْبَا ضَمَّ أَعْظَمَهُ

جو آپ کے جسم مبارک سے مٹی لگی ہے کوئی اس کی برابر نہیں خوشبو میں

طَوْبِي لِمُسْتَشِقِّ مِّنْهُ وَمَلَّتِي

خوش حالی اس کے لئے ہے جو اسے سونچے اور چومے

الفصل الرابع

فصل چوتھی

فِي مَوْلِدِ الشَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بیان میں مولد نبی پاک صلا اللہ علیہ وسلم کے

أَيَّانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طَيْبٍ عَذُورِهِ

ظاہر کر دیا آپ کے زمانہ ولادت نے آپ کے عنصر کی پاکیزگی اور خوبی کو

بِأَطْيَبِ مُتَدَايٍ مِّنْهُ وَمَدْنَتِي

سبحان اللہ! کیا پاکیزگی اور خوبی ہے اول بھی اور آخر بھی



يَوْمَ تَفْرَسَ فِيهِ الْفُرْسُ أَنْتَهُمُ

اس روز جان لیا فارسیوں نے کہ وہ سمجھتی

قَدْ أَثَارُوا بِحُلُولِ الْبُؤْسِ وَالْتِقَمَ

اور عذاب کے آنے سے ڈرائے جائیں گے

وَبَاتَ أَيُّوانُ كِسْرَى وَهُوَ مُنْصَادِعٌ

اور نوشیرواں کے محل کے کنگرے گر گئے اور وہ

كَشْمَلٌ أَصْحَابُ كِسْرَى غَيْرَ مِلْتَمِ

پھر نہیں ملنے کے جیسے اُس کے یارو مددگار

وَالنَّارُ خَامِدَةٌ الْاَلْفَاسِ مِنْ اَسْفِ

اور فارسیوں کی آگ نے ٹھنڈی سانس لی انوس سے

عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِي الْعَيْنِ مِنْ سَدَامِ

اوپر نوشیرواں کے اور نهران کی سوکھ گئی ہرہیشانی سے

وَسَاءَ سَاوَةَ أَنْ غَاضَتْ بِحَيْرِثَهَا

اور غنچین کیا سادہ کو کہ اس کا پانی سوکھ گیا

وَرْدٌ وَارِدَهَا بِالْغَيْظِ حِينَ ظَمَ

اور اس پر سے پیاسے پھر گئے غصہ کرتے ہوئے

كَانَ بِالنَّارِ مَا بِالنَّارِ مِنَ بَلَلِ

کو یا آگ غم سے پانی ہو گئی جیسے پانی تر ہوتا ہے

حُزُنًا زَالِيًا بِالنَّارِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَمِ

اور پانی غم سے ایسا بھڑکا کہ آگ بن گیا یعنی خشک ہو گیا جیسے سوکھی مٹی



وَالْجِنُّ تَهْتِفُ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ

اور جن آواز دیتے تھے آپ کے ظہور کی اور انوار بلند ہوتے تھے

وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِمَةٍ

اور حق یعنی نبوت ظاہر ہوتی تھی ان انوار سے اور ان کی آواز سے

عَمُّوْا وَصَمُّوْا فَاَعْلَانُ الْبَشَائِرِ لَمْ

انہ سے اور بہرے ہو گئے کافر کہ انہوں نے غوغائیوں کے اعلان

يَسْمَعُ وَبَارِقَةُ الْاِنْدَارِ لَمْ تَشْمُ

نہ سنے اور ڈرانے کی بجلیاں نہ دیکھیں

مِنْ اَلْعِدْمَا اَخْبَرَ الْاَقْوَامَ كَاثِرًا

بعد اس کے کہ ان کے کاپہنوں نے خبر دی تھی

بِاَنَّ دِيْنَهُمُ الْمَعْرُوبَةُ لَمْ يَقْمِ

کہ ان کا دین کچ ہو گیا ایسا کہ سیدھا نہ ہو گا

وَبَعْدَمَا عَابَيْنَا فِي الْاُفُقِ مِنْ شَهْبٍ

اور بعد اس کے افق آسمان سے آگ کے شعلے گرتے نظر آئے

مَنْقُضَةً وَفَوْقَ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ صَنْمٍ

اس کے موافق زمین میں بت اوندھے ہو کر گر پڑے

حَتَّى عَدَا عَنْ طَرِيقِ الْوَسْحِيِّ مِنْهُمْ

یہاں تک کہ وحی کی راہ سے بھاگتے تھے

مِّنَ الشَّيَاطِينِ كَيْفَؤَاثِرٍ مِنْهُمْ

شیاطین ایک تہچھے ایک کے



كَانَتْهُمْ هَرَبًا أَبْطَالُ أَبْرَهَةَ

گویا وہ شیاطین بھاگتے ہیں ابرہہ کا لشکر تھا

أَوْ عَسَاكِرُ بِالْحَصَى مِنْ رَاخِيهِ رِم

یا وہ لشکر تھا کہ جس پر آپ نے کسار سے تے

نَبَذْنَا إِيَّاهُ بَعْدَ تَسْبِيحِ بَطْنِهِمَا

ان کنگروں کا پھینکنا تھا بعد ان کے تسبیح کہنے کے دست مبارک میں

نَبَذْنَا الْمَسْبُوحَ مِنْ أَحْسَاءِ مَلْتَمِمْ

جیسے حضرت یونس تسبیح کہنے والے کو پھینکا انگریزوں سے لقمہ کرنے والی کی

الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي ذِكْرِ يَمِينِ

فصل پانچویں ذکر میں آپ کی دعوت مبارک کے

دَعْوَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رحمت اللہ کی ان پر اور سلام ہو

جَاءَتْ لِدَاعُوْتِهِ الْأَشْجَادُ سَاجِدَةً

آئے درخت جب آپ نے بلایا سجدہ کرتے ہوئے

تَمَشَّى إِلَيْهِ عَلَى سَاقِ رَبِّ لِقْدَامِ

اپنی پنڈلیوں پر چلے آئے بدون پاؤں کے

كَانَتْ سَطْرَتُ سَطْرِ الْمَا كَتَبَتْ

گویا ان درختوں کی شاخوں نے راہ کے درمیان

فَرُوْعَهَا مِنْ بَدَائِعِ الْخَطِّ فِي الْقَم

ایک نادر خط سے آپ کے کلمات لکھے



مِثْلُ الْغَمَامَةِ أَفْ سَارَ سَائِرَةً

مانند ابر کے ٹکڑے کے سر پہ جاتا تھا جہاں آپ جاتے

تَقِيَهُ حَرًّا وَطَيْسٌ لِلْمُهْجِرِ حَبِي

حفاظت کرتا تھا گرمی سے دوپہر کو موسم گرمی میں

أَفْسَنْتُ بِالْقَبْرِ الْمُشَقِّ إِنْ لَه

میں قسم کھاتا ہوں سچی شق ہونے والے چاند کی کہ اُسے

مِنْ قَلْبِهِ نِسْبَةٌ مَبْرُورَةٌ الْقَسَم

آپ کے قلب سے نسبت ہے

وَمَا هَوَى الْغَارُ مِنْ حَيْرٍ وَمِنْ كَرَمٍ

اور باد کہ اُسے جو غار نے خیر و کرم جمع کیا جب آپ اس میں چھپے تھے

وَكُلُّ طَرْفٍ مِنَ الْكُفَّارِ عَم

اور سب کانٹوں کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں کہ آپ کو نہ دیکھا

فَالصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيقُ لَمْ يَرِيَا

تو صدق یعنی آپ اور صدیق دو نو غار میں تھے اور ان کو نہ دکھائی دیتے تھے

وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ أَرَمٍ

اور کافر کہتے تھے کہ غار میں کوئی نہیں ہے

ظَلُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعَنْكَبُوتَ عَلَى

انہوں نے گمان کیا کہ کلمہ ہی نے آپ پر حال نہیں تنہا اور کبوتر نے

حَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَسْجُجْ وَلَمْ تَحْم

انڈ سے نہیں دئے بلکہ پہلے سے یوں ہی ہے



وَقَايَةَ اللَّهِ أَعْنَتْ عَنْ مَضَاعِفَةٍ

اللہ کی نگہبانی نے آپ کو بے پروا کر دیا

مِنَ الدُّرُوعِ وَعَنْ عَالٍ مِنَ الْأَطْمِ

ذرہوں اور چلتوں تہ برتہ سے اور بلند قلعوں سے

مَا سَأَمَنِي الدَّهْرُ ضَيْمًا وَاسْتَحْرَتُ بِهِ

مجھ پر زمانہ نے جب بھی رنج و خواری سے ستم کیا اور میں نے آپ کی پناہ لی

إِلَّا وَنِلْتُ جَوَامِرًا مِنْهُ لَمْ يُضْم

ذرا اجایت میں آگیا اور اس کے ستم سے بچ گیا

وَلَا التَّمَسْتُ عَنِّي الدَّارِينَ مِنْ يَدَا

اور میں نے جب آپ سے دین اور دنیا کی تو نگری جا ہی، سب سے باز رہا ہے

إِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدَى مِنْ خَيْرِ مُسْتَلِمٍ

بخشش کو اس دست مبارک کے جو ہر دستوں سے بہتر ہے

لَا تُشْكِرُ الوَحْيَ مِنْ رُؤْيَا إِيَّاتِ لَهُ

انکار نہ کر آپ کو وحی ہونے کا خواب ہیں کہ آپ کا قلب مبارک

قَلْبًا إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنْمِ

نہیں سوتا تھا جب آپ کی دونوں آنکھیں سوتی تھیں

وَذَاكَ حِينَ بُلُوْعٍ مِنْ سُبُوْتِهِ

یہ تو آپ کی نبوت کے بلوغ کا وقت تھا

فَلَيْسَ يُنْكِرُ فِيهِ حَالٌ مُحْتَلَمٍ

اور اس وقت کے خواب کا انکار نہیں ہو سکتا



تَبَارَكَ اللهُ مَا وَحَىٰ بِمُكْتَسَبٍ

بزرگ ہے اللہ وحی کسب سے حاصل نہیں ہوتی

وَلَا نَبِيٍّ عَلَىٰ عَيْبٍ بِمُتَّهَمٍ

اور نہ کوئی نبی کبھی عیب کی خبر دینے سے متہم کیا گیا

آيَاتُهُ الْغُرُّ لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ أَحَدٍ

آپ کے معجزات روشن کسی پر پوشیدہ نہیں

يَدُ وَنِيهَا الْعُدَالُ بَيْنَ النَّاسِ لَمْ يَقُمْ

کہ بدون ان کے لوگوں میں عدل قائم نہیں ہوتا

كُمُ أَبْرَاتٌ وَصِبَايَا لِّلْمَسِ رَاحَتُهُ

بارہ اچھے ہوئے بیمار آپ کے ہاتھ ٹکانے سے اور بہت سے

وَاطْلَقْتُ أَرْبَابًا مِّن رَّبِّيَّةِ اللَّحْمِ

محتاج رہا ہوئے رشتہ اور ہاتھی سے بغلیں آپ کے دست مبارک کے

وَاحْتَبَتِ السَّنَةُ الشَّهْبَاءَ دَعْوَتُهُ

اور سالِ محظوظ جو سیاہ تھا آپ کی دعا سے زندہ ہو گیا

حَتَّىٰ حَكَتْ عِزَّةً فِي الْأَعْصِرِ اللَّحْمِ

اور سفید روشن ہوا اس سیاہی میں

يَعَارِضُ جَادًا وَخَلَّتِ الْبِطَاحُ بِهَا

اس امیر سے ایسا برسا کہ تو خیال کرے بڑی ندیاں اس امیر سے دریا کے

صَبِيًّا مِّنَ الْيَمِّ أَوْ سَيْلًا مِّنَ الْعَرَمِ

عطائے کثیر یا ایک دریا پانی کی جو سنگین بند سے کھس گئی



الفصل السادس

فصل چھٹی

في ذكر شرف القرآن

بیان میں شرف و بزرگی قرآن کے

دَعْنِي وَوَصِفِي آيَاتِ لَهْ ظَهَرَتْ

مجھے بیان کرنے دے حضرت کے معجزے جو ان سے ظاہر ہوئے

ظَهْرًا نَارَ الْقُرْآنِ لَيْلًا عَلَى عِلْمٍ

جیسے شب کو پہاڑ کے اوپر مہمانی کی آگ کا صہر ہوتی ہے

فَالذُّرِّيُّ يَزِدُّ أَحْسَنًا وَهُوَ مُنْتَظَمٌ

پس موتیوں کی غوبلی زیادہ ہو جاتی ہے ہر دن سے

وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْرًا غَيْرَ مُنْتَظَمٍ

اور نہ پر دن سے بھی کچھ مستدر کم نہیں ہوتی

فَمَا تَطَاوُلُ أَمْالُ الْمَدَائِحِ إِلَى

پس مدح کرنے والے کی آرزوئیں کیوں نہ بڑھیں اس چیز

مَا فِيهِ مِنْ كَرَمِ الْأَخْلَاقِ وَالشَّيْمِ

کی طرف جو آپ کے اخلاق بزرگ اور خصلتوں میں ہیں

آيَاتُ حَقِّ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثَةٌ

آیات حق کے ہیں رحمن سے حدت لفظوں میں

قَدِيمَةٌ صِفَةُ الْمُوصُوفِ بِالْقَدِيمِ

قدیم معنی میں اس لئے کہ صفت اس کی ہیں جو موصوف ہے قدیم سے



لَمْ تَقْتَرِنُ بِزَمَانٍ وَهِيَ تَخْبِرُنَا

نہ تھیں متربیب زمانے کے اور وہ ہم کو خبر دیتی ہیں

عَنِ الْمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ أَرَمَ

آخرت کی اور اولاد عساد اور قوم ارم کی

دَامَتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجَزَةٍ

ہمیشہ رہیں گے ہمارے پاس یہ معجزے جو سب نبیوں کے معجزوں سے نائق ہیں

مِّنَ النَّبِيِّينَ إِذْ جَاءَتْ وَلَمْ تَدَام

کہ ان کے معجزے ہوئے اور نہ رہے

مُحْكَمَاتٌ فَمَا يَبْقِيَنَّ مِنْ شُبَّةٍ

قرآن کی آیتیں ایسی محکمات ہیں کہ کسی دشمن کے لئے جائے شہ نہ ہیں

لِذِي شِقَاقٍ وَلَا يَبْغِيَنَّ مِنْ حَكَمٍ

اور نہیں چاہتی ہیں کسی حاکم کو کہ فیصلہ کرے

مَا حُورِبَتْ قَطُّ إِلَّا عَادَ مِنْ حَرْبٍ

ان آیات سے جب کسی دشمن بدترین دشمنان نے

أَعْدَى الْأَعَادِي إِلَيْهَا مَلَقِيَ السَّلَامَ

جنگ کی تو وہ باز آیا صلح کرتا ہوا

رَدَّتْ بِلَاغَتِهَا دَعْوَى مُعَارِضِهَا

ان کی بلاغت نے معارضہ کرنے والے کو ایسا رد کیا ہے جیسے

رَدَّ الْغَيُورُ يَدَ الْجَائِي عَنِ الْحَرَمِ

مرد بیعت دار گناہ کرنے والے کا ہاتھ اپنے حرم سے رد کرتا ہے



لَهُمَا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبُحْرِ فِي مَدَادٍ

ان آیات کے ایسے معانی ہیں، جیسے دریا کی موجیں ایک دوسری کی مدد کرتی ہیں

وَفَوْقَ جَوْهَرَةٍ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيمِ

اور فائق ہیں اس دریا کے جوہر سے حسن و قیمت میں

فَمَا تَعْدُ وَأَوْلَا تَحْصِي عَجَابِهَا

پس شمار نہیں کئے جا سکتے قرآن شریف کے عجائب اور

وَلَا تَسَامُ عَلَى الْإِكْثَارِ يَا لَسَّامِ

طالت کے ساتھ ان عجائب کی خریداری نہیں کی جاتی ہے باوجود بہت ہونیکے بلکہ خواہش سے

قَرَّتْ بِهَا عَيْنٌ قَارِبُهَا فَقُلْتُ لَهُ

اس کے پڑھنے والے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں میں نے اس سے کہا

لَقَدْ ظَفِرْتُ بِحَبْلِ اللَّهِ فَاَعْتَصِمِ

کہ تو میرا نفسیہ والا ہے خوب مضبوط رہ ان پر ان میں چنگل مار

إِنْ تَتْلَاهَا خَيْفَةً مِّنْ حَرِّ نَارٍ لَّظِي

اگر تو نے وہ آستیں پڑھیں آستیں دوزخ کے خوف سے

أَطْفَاتٍ حَرِّ لَّظِي مِنْ وُرْدِهَا الشَّبِيمِ

تو تو نے وہ آگ بجمادی ان آیات کے سرد پانی سے

كَأَنَّهَا الْحَوْضُ تَبْيَضُ الْوَجْوَهُ بِهِ

گو یا وہ آیات کہ یہ حوض کوثر ہیں جس سے منہ سفید ہوتے ہیں

مِنَ الْعَصَاةِ وَقَدْ جَاءُوهَا كَالْحَمَمِ

گنہگاروں کے جو ہوں گے کالے مانند کونٹوں کے



وَكَالِصِّرَاطِ وَكَالْمِيزَانِ مَعْدَلَةٌ

اور عدل میں جیسے صراط اور میزان ہیں کہ ان کے سوا

فَالْفِئْطَةُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يُقْتَمِ

لوگوں کے واسطے عدل قائم نہیں ہو سکتا ہے

لَا تَعُجِبَنَّ لِحَسْرَةٍ رَاحٍ يُنْكِرُهَا

تعجب نہ کر اگر حاسد انکار کرے

تَجَاهِلًا وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفِيهِمْ

جان بوجھ کر کہ وہ خوب ذہیرک ہے اور سمجھا ہوا ہے

قَدْ تَنَكَّرَ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمْدٍ

کیونکہ آنکھ انکار کرتی ہے آفتاب کا بسبب مرضِ رمد کے

وَيُنْكِرُ الْقَمَّ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ

اور منہ پانی کے مزے کا انکار کرتا ہے بیماری کے سبب سے

الفصل السابع في ذكر

فصل ساتویں بیان میں

مِعْرَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

معرراج نبی صل اللہ علیہ وسلم کے

يَا خَيْرَ مَنْ يَتَمَّ الْعَافُونَ سَاعَتَهُ

اے بہترین ہیں جن کی دنیا کا لوگ احسان طلب کرتے ہیں

سَعِيًّا وَفَوْقَ مَتُونِ الْهَيْبَةِ الرَّسْمِ

دوڑے آتے ہیں پیادے اور سوار ادنیوں پر پے در پے



وَمَنْ هُوَ الْآيَةُ الْكُبْرَى لِمُعْتَدِرٍ

اور وہ ذات مبارک آیت کبریٰ ہے عبرت والے کے واسطے

وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَى لِمُعْتَنِمٍ

اور وہی ہے نعمت عظمیٰ غنیمت گنتے والے کو

سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَبِيًّا إِلَى حَرَمٍ

سیر زمانی آپ نے ایک شب میں حرم مکہ سے بیت المقدس کے حرم تک

كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فِي دَارِجٍ مِنَ الظُّلَمِ

جیسے چورھوں سات کا چاند چلے اندھیری رات میں

وَيْتٌ تَرْتَقِي إِلَى أَنْ يَتَلَّتْ مَسْرُوتَةٌ

اور ترقی کرتے گئے یہاں تک کہ پہنچے قباب قوسین کے

مَنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تَدْرِكْ وَلَمْ تَدْرِمِ

رتبہ کو جو نہ اوراں کیا جاتا ہے اور نہ طلب کیا جاتا ہے

وَقَدْ مَتَّكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا

اور اس رتبہ کے سبب سب انبیاء و مرسلین نے آپ کو مقدم کیا

وَالرُّسُلُ تَقْدِيمُ مَخْدُومٍ عَلَى خَدَمٍ

جیسے خادم اپنے عنود کو مقدم کرتے ہیں

وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطَّبَاقَ بِهِمْ

اور آپ شگاف کرتے چلے گئے ساتوں طبق آسمان کے

فِي مُوَكَّبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعِلْمِ

اس طرح ان میں جیسے ایک شکر کہ اس کے صاحب نشان آپ ہیں



حَتَّىٰ إِذَا الْمَتَدَعُ شَا وَالْمُسْتَبِقُ

یہاں تک کہ باقی نہ رکھا پیش جانا کسی آگے جانے والے کا

مِّنَ الدُّنْيَا وَلَا مَرْفَعًا لِّمُسْتَبِقِمْ

تزدیکی میں اور نہ بالا جانے والے کے لئے بلا جانا

خَفَضَتْ كُلَّ مَقَامٍ بِإِلْضَافَةٍ إِذْ

ہر مکان کو آپ نے بہت کیا جیسے اضافت سے زیر ہوتا ہے اس لئے کہ

تُوْدِيْتِ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُنْفَرِدِ الْعَلَمِ

آپ بلائے گئے بلند پر جیسے منادی معز و علم رفع سے پڑھا جاتا ہے

كَيْمًا تَفُوزُ بِوَصْلِ أَرَى مُسْتَتِرٍ

یہاں تک کہ بہرہ ور ہوئے ایسے وصال سے جو کمال پوشیدہ ہے آنکھوں سے

عَنِ الْعُيُونِ وَبِسْرِ أَرَى مَكْتُمٍ

اور ایسے راز سے جو نہایت پوشیدہ ہے

وَجُرَتْ كُلُّ فَخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرِكٍ

پس حاصل ہوئے آپ کو سب ایسے لقب جو باعث خیر ہیں اور کوئی ان میں شریک نہیں

وَجُرَتْ كُلُّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحِمٍ

اور گزرے آپ ہر مقام میں کہ وہاں کوئی اور نہ مت

وَجَلَّ مَقْدَامًا وَلِيْتٍ مِنْ رُتَبٍ

اور بہت ہیں بزرگی میں وہ رتبے جو آپ کو دئے گئے

وَعَزَّ إِذْرَاكُ مَا أُولِيْتٍ مِنْ نِعَمٍ

اور کسی کے ادراک میں نہ آئیں وہ نعمتیں جو آپ کو عطا ہوئیں



بَشْرَى لَنَا مَعْشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا

اسے گروہ اسلام ہم کو بہت بشارت ہے کہ ہمارے واسطے

مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنَا عَنِزٍ مُنْهَدِمٍ

ایسا رکن عینت ہوا ہے جو نہ کبھی خراب ہو اور نہ گرے

لَمَّا دَخَى اللَّهُ دَا عَيْنَا رِطَاعَتِهِ

جب بلا یا اللہ نے ہمارے دل سے اپنے عبادت کو

بِأَكْرَمِ التَّرْسُلِ كُنَّا أَكْرَمَ الْأَهْمِ

بزرگ ترین پیغمبر و ملا کا کیا ان کو اور ہم بزرگ ترین امتوں کے ہوئے

الفصل الثامن من فوج اکرم

مصل آٹھویں بیان میں

بِحَمْدِ اللَّهِ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بہاد کرنے میں نبی مصل اللہ علیہ وسلم کے

رَاعَتْ قُلُوبَ الْعِدَايَ أَنْبَاءَ بَعْثَتِهِ

دشمنوں کے دل ڈرادئے ان کے نبی ہونے کی خبر نے

كُنْبَاءَ أَجْفَلَتْ عُفْلًا مِّنَ الْغَنَمِ

جیسے ایک بکری غافل ڈر جاتی ہے اور جھکتی ہے بکریوں سے

مَا زَالَ يُلْقَاهُمْ فِي كُلِّ مَعْتَرِكٍ

آپ ہمیشہ چھا کر رہے کا زوں سے ہر سو کہ ہیں یہاں تک کہ

حَتَّىٰ حَكُوا بِالْقَنَا لِحَمَا عَلِيٍّ وَضَمِّ

کافرنوں پر یوں معلوم ہوتے تھے جیسے گزشت لٹکا یا جانا ہے نیز سے پر



وَدُّ وَالْفِرَارَ فَكَادُوا يَغِيظُونَ بِهِ

جہاں دوست رکھتے تھے اور قریب تھا کہ رشک کریں ان پر

أَسْلَاءَ شَالَتْ مَعَ الْعُقْبَانِ وَالرَّحِمِ

جن کے گوشت عقاب اور پرندے اور بے گئے

تَمْضِي اللَّيَالِيِ وَلَا يَدُرُونَ عِدَّتَهَا

راتیں گزرتی تھیں اور کاغذ نہ جانتے تھے ان کے شمار

مَا لَمْ تَكُنْ مِنَ لَيَالِيِ الْأَشْهُرِ الْحَرَمِ

جب تک راتیں ان مہینوں کی نہ ہوتیں جن میں ڈرائی مسام ہے

كَأَنَّمَا الدِّينُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاعَتَهُمْ

گویا دین اسلام ان کے گھروں میں ایسا مہمان آیا ہے

بِكُلِّ قَرْمٍ إِلَى لَحْمِ الْعُدَايِ قَرْمٍ

ہر سردار پر کہ دشمنوں کے گوشت کھانے پر بہت حریص ہے

يَجْرُ بِحَرْخِمَيْسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ

دریا کے جنگ جو خوش رفتار کھوڑوں پر ہے ان کو دیکھتا ہے اور

تَرْمِي بِمَوْجٍ مِنَ الْأَبْطَالِ مُلْتَطِمٍ

سواروں کی موج کو پھینکتا ہے عقیب میں لگاتا ہوا

مِنْ كُلِّ مُنْتَدِبٍ لِلَّهِ مُحْتَسِبٍ

ہر اجابت کرنے والا اللہ سے امید رکھنے والا ہے

يَسْطُوْا بِسُنَّاصِلٍ لِّلْكَفْرِ مُضْطَلِمٍ

حملہ کرتا ہے کافروں کو جوڑے اکھیڑنے کا اکھیڑنے میں



حَتَّىٰ غَدَاتُ مَلَّةِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ بِهِمْ

یہاں تک کہ ملت اسلام جو پہلے عزیز تھی کوئی اُسے

مِنْ أَعْدَائِهِمْ مَوْصُولَةَ الرَّحْمِ

کچھ نہ سمجھنا تھا۔ اپنے استر با سے مل گئی

مَكْفُولَةَ أَبَدًا مِنْهُمْ بِخَيْرٍ أَبِ

وہ ملت کفالت میں ان سے ہے ہمیشہ اچھے باپ

وَّخَيْرٍ بَعْلٍ فَلَمْ تَيْتِمُوا وَلَمْ تُيْتِمُوا

اور اچھے شوہر کی پس نہ یتیم ہو گئی اور نہ بیوہ ہو گئی

هُمْ الْجِبَالُ فَسَلُّ عَنْهُمْ مَصَادِمَهُمْ

وہ لشکر اسلام پہاڑ ہیں ان سے پوچھو کافروں کے صدرے پہنچانے کی خبر

مَا ذَا رَأَى مِنْهُمْ فِي كُلِّ مَضْطَبٍ

کہ کافروں نے کیا دیکھا ہے ان سے ہر مسرکہ میں

فَسَلُّ حُنَيْنًا وَسَلُّ بَدْرًا وَسَلُّ أَحَدًا

جنگ حنین اور جنگ بدر اور جنگ احد کا حال پوچھو

فَصُولَ حَتْفِ لَهْمٍ أَدْهَىٰ مِنَ الْوَحْمِ

کہ کافروں کے لئے موت کی فصلیں تمہیں دبا سے زیادہ سخت

الْمَصْدِرِ الْبَيْضِ حُمْرًا بَعْدَ مَا وَرَدَتْ

وہ صحابہ دشمنوں کے خون سے سفید تلواروں کو سرخ ٹکا سننے والے

مِنَ الْعِدَىٰ كُلِّ مَسْوَدٍ مِّنَ اللَّيْمِ

اعداد کی ہر ذلت کی سیاہی کے بعد



وَ الْكَاتِبِينَ بِسُرِّ الْخَطِّ مَا تَرَكَتُ

اور وہ صحابہ نیزوں کی قلموں سے خط لکھنے والے کہ ان کے قلموں نے

أَقْلَامُهُمْ حُرُوفَ جِسْمٍ غَيْرِ مُتَعَجِّمٍ

کسی حرف جسم کو ہے نقطہ حزب کے نہیں پھوڑا

شَأْلِي السَّلَاحِ لَهُمْ سَيِّمَاتِيهِمْ

ان کے ہتھیار کھینچی ہوئی نشانی تھی ان کے امتیاز کی کہ

وَالْوُرْدِ يُمْتَارُ بِالسَّيِّمَاتِ مِنَ السَّلَامِ

گلاب کا پھول نشانی سے ممتاز ہوتا ہے درخت خار دار سے

تَهْدِي إِلَيْكَ رِيَّاحُ النَّصْرِ شَرَّهُمْ

اُن کی خوشخبریاں بھڑ کو ہوائے نصرت کا ہریہ بھیجتی ہیں

فَتَحْسِبُ الْوُرْدَ فِي الْأَكْمَامِ كُلِّكُمْ

پس تو گمان کرے کہ ہر دلاور گلاب ہے غلاف میں

كَانَهُمْ فِي ظُهُورِ الْخَيْلِ نَبْتُ رَبِّا

گویا وہ اپنے گھوڑوں کی پشت پر ایسے ہیں جیسے اس میں درخت اگے ہیں

مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ لَا مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ

اپنی شجاعت اور احتیاط کے سبب نہ اس سبب سے کہ زمینیں تنگ ہیں

طَارَتْ قُلُوبُ الْعِدَايِ مِنْ بَأْسِهِمْ فَرَقًا

دشمنوں کے دلوں میں لرزہ پڑا جان کے ڈر سے

فَمَا تَفَرَّقَ بَيْنَ الْبِهِمِ وَالْبِهِمِ

چارپائے کو آدمی سے نہیں پہناتے ڈر اور غم سے



وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ تُصِرْتَهُ

اور جس کو رسول اللہ سے مدد اور نصرت آئے

إِنْ تَلَفَتْهُ الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجَمَّ

اگر شیر بھی اس سے ملے تو اس کے ڈر سے تارخ ہو جائے

وَلَنْ تُرَامِي مِنْ وَرَثِي عَيْرٍ مُتَصِرٍ

ہرگز تو کبھی نہ دیکھے گا کہ آپ کا دوست مدونہ پاسے

بِهِ وَلَا مِنْ عَدُوِّ عَيْرٍ مُنْقَسِمٍ

اور آپ کا دشمن ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو

أَحَلَّ أُمَّتَهُ فِي حِرْزِ مِلَّتِهِ

اپنی امت کو اپنی ملت کے قلعہ میں ایسا لے لیا ہے

كَالْبَيْتِ حَلٍّ مَعَ الْأَشْبَالِ فِي أَجَمٍ

جیسے شیر اپنے بچوں کو نیستان میں

كَمْ جَدَّاتُ كَلِمَاتِ اللَّهِ مِنْ جَدَلٍ

کلمات الہی نے بہت جھگڑنے والوں سے جگ کی آپ کی

فِيهِ وَخَصَّمَهُ الْبُرْهَانَ مِنْ خِصْمٍ

شان میں اور بہت برہان الہی نے خصومت کی یعنی غالب آپیں

كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمِّيِّ مُعْجِزَةٌ

تجھ کو یہی معجزہ کافی ہے کہ امی کو زمانہ جاہلیت

فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّأْدِيبِ فِي الْيَتِيمِ

میں علم اور یتیم کو ادب حاصل ہوا



الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي طَلَبِ

فصل نویں بیان میں

مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَشَفَاعَتِهِ

اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کے اور طلب کرنے میں

مِن رَّسُولِ اللَّهِ

شفاعت کے رسول اللہ

صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صلی اللہ علیہ وسلم سے

حَدَّثَنَا بِمَا يَجِبُ اسْتِقْبَالُ بِهِ

میں نے آپ کی خدمت مدح سے اس لئے کی ہے کہ عفو ہو جائیں

ذُنُوبٌ عَمِرَ مَضَىٰ فِي الشَّعْرِ وَالْجَدَامِ

وہ گناہ جو اتنی عمر میں کئے ہیں یعنی شعر کستار باہوں اور خدمت کی ہے دو قسموں کی

إِذْ قَلَّدَ أَرْنَىٰ مَا تَخْشَىٰ عَوَاقِبُهُ

کیونکہ میرے گلے میں پٹہ ڈال دیا ہے دونوں باتوں نے جس سے انجام کا خوف ہے

كَأَنِّي بِهِمَا هَدَىٰ مِنَ النِّعَمِ

گویا دونوں باتوں سے میں حیوان ہوں چار پایوں میں

أَطَعْتُ عَى الصَّبَا فِي الْحَالَتَيْنِ وَمَا

میں نے لڑکپن کی گمراہی کی اطاعت کی دونوں حالتوں میں اور کچھ

حَصَلْتُ إِلَّا عَلَى الْأَثَامِ وَالسُّدَامِ

حاصل نہ ہوا سوائے گنہوں اور پشیمانی کے



فَبِأَخْسَارَةٍ نَفْسِي فِي تِجَارَتِهَا

بڑا افسوس ہے کہ نفس کو تجارت میں بڑا نقصان ہوا

لَمْ تَشْتَرِ الدِّينَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسْم

کہ دین کو نہ حسد پیدا دنیا کے عوض اور مول نہ لیا

وَمَنْ يَبْعُ عَاجِلًا مِنْهُ بِعَاجِلِهِ

جو شخص آخرت کے نفع کو دنیا کے نفع پر بیچتا ہے

يَبْنِي لَهُ الْغَيْنُ فِي بَيْعٍ وَفِي سَلَمٍ

اس کو نقصان ہی ظاہر ہوتا ہے خریداری موجود اور آئندہ میں

وَإِنْ أَتَيْتُمْ بِمَا عَاهَدْتُمْ بِمَنْتَقِضٍ

اگرچہ میں نے کہا کئے ہیں پر میرا پیمانہ نہیں مٹانے کا

مِنَ النَّبِيِّ وَلَا حَبْلِي بِمَنْصَرِمٍ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ میرا رشتہ ٹوٹنے کا

فَإِنِّي لِي ذِمَّةٌ مِّنْهُ بِنَسْيَانِي

کیونکہ میرے واسطے آپ کا عہد ہے بیسیب اس کے کہ میرا نام

مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالدَّهَمِ

عہد ہے اور آپ زیادہ پورا کرنے والے ہیں خلقت سے عہدوں کو

إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي أَخَذَ ابْيَدِي

اگر آپ میری دستگیری آخرت میں از روئے عقل کے نہ کریں

فَضْلًا وَإِلَّا فَقَدْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ

تو کہو بڑی ہی لغزش ہوئی اور پاؤں رہ چکے



حَاشَاهُ أَنْ يُحْرَمَ التَّرَاجِي مُكَارِمَهُ

حاشا اللہ! کہ آپ کا اسیدوار بخششوں کا محروم رہے

أَوْ يُرْجَعِ الْجَارُ مِنْهُ عَيْرٌ مُحْتَرَمٌ

یا پناہ لینے والا یوں ہی الٹا پھرے ہے تو تیر

وَمَنْزُ الْزَمْتُ أَفْكَارِي مَدَارِيحَهُ

اور میں نے جیسے آپ کی مدح میں فنکے کو لازم کر لیا ہے

وَجَدَاتُهُ لَخَلَّاصِي خَيْرِ مُلْتَزِمٌ

آپ کو اپنی خلاصی کے واسطے بہت اچھا ذمہ دار پایا ہے

وَلَنْ يَفُوتَ الْغِنَى مِنْهُ يَدَا تَرِبَتْ

اور اگر گزے بے نیاز می فوت نہ ہوگی اس ہاتھ کی جو خاک پر پہنچے

إِنَّ الْحَيَا يُنْبِتُ الْأُزْهَارَ فِي الْأَكْمِ

جس نے وسیلہ آپ کا لیا کیونکہ مینہ ٹیلوں پر سبزہ پیدا کرتا ہے

وَلَمْ أَرُ دُزْهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِي أَتَتْ طَفَتْ

اور میں نہیں جانتا ہوں دنیا کے منافع جیسے نہ ہیر شاعر

يَدَا زَهْرِيْمَا أَشْنَى عَلَيَّ هَرَمٌ

ہاتھوں نے یوسے چنے ہرام بن ہشام کی شش کہنے میں

الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي ذِكْرِ

فصل دسویں بیان و ذکر

الْمَنَاجَاتِ وَعَرَضِ الْحَاجَاتِ

مناجات میں اور پیش کرنے میں حاجتوں کے



يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مِنْ الْوُدِّ بِهِ

اسے تمام مخلوق سے بزرگی تر آپ کے سوا میرا کوئی ایسا نہیں

سَوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

جس سے پناہ چاہوں حادثہ عام کے نازل ہونے میں

وَلَنْ يُضِيْقَ رَسُولَ اللّٰهِ جَاهُكَ رَبِّي

اور لے رسول اللہ آپ کا مرتبہ میری شفاعت میں تنگی نہ کر جائے

اِذَا الْكَرِيْمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ

جس وقت وہ ذات کریم اپنے اسم منتقم کے ساتھ جلوہ گر ہوگی

فَاِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَرَثَهَا

کیونکہ دنیا اور آخرت آپ کی بخششوں میں سے ہے

وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمُ اللّٰوْحِ وَالْقَلَمِ

اور لوح و قلم آپ کے علموں میں سے ہیں

يَا نَفْسُ لَا تَقْنَطِي مِنْ رَزَقٍ عَظُمَتْ

اے دل ناامید نہ ہو بڑے گناہوں کے سبب سے

اِنَّ الْكِبَايْرَ فِي الْعَفْرَانِ كَاللَّمَمِ

اس لئے کہ بخشش میں گناہ کبیرہ جھوٹے ہوتے ہیں

لَعَلَّ رَحْمَةً رَبِّيْ حِيْنَ يَّقْسِمُهَا

امید ہے کہ جب اللہ کی رحمت تقسیم ہوگی تو

تَأْتِيْ عَلَيَّ حَسْبِ الْعُصْيَانِ فِي الْقَسَمِ

موافق گنہوں کے ہوگی جس کے گناہ بہت ہوں گے اس پر رحمت بہت ہوگی



يَا رَبِّ وَاجْعَلْ رَجَائِي غَيْرَ مُنْعَكِسٍ

اے میرے پروردگار میری امید کو الٹا نہ کیجیو

لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِي غَيْرَ مُنْخَرِمٍ

اپنے سامنے اور میرے حساب کو یعنی النفا کو بر لاویو

وَالطَّفُ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّ لَهُ

اور اپنے بند سے پردوں جان میں عنایت کہ کعب امور ائمہ اسکو پیش آتے ہیں

صَبْرًا مَّتَى تَدْعُهُ الْاَهْوَالُ يُنْهَذِم

تو اس کا صبر بھاگ جاتا ہے یعنی بے صبر ہو جاتا ہے

وَإِذْ ذُنُوبٌ سَحَابٌ صَلَوَةٌ مِنْكَ دَائِمَةٌ

اور درود و سلام کے ابروں کو اجازت دے کہ ہمیشہ

عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْحَلٍ وَمَسْجِمٍ

کمال کثرت سے برسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر

وَالْأُولِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّالِعِينَ لَهُمْ

اور سب آل و اصحاب اور ان کے تالبعین پر کہ وہ تقویٰ

أَهْلُ التَّقَى وَالنَّقَى وَالْعِلْمِ وَالْكَرَمِ

اور علم اور علم اور کرم کے اہل ہیں رضوان اللہ علیہم

ثُمَّ الرِّضَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عَمْرٍ

پھر رضی ہو حضرت ابوبکر رضی اور حضرت عمر رضی سے

وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ ذِي الْكُرَمِ

اور حضرت علی رضی اور حضرت عثمان رضی سے کہ وہ صاحب کرم ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین



مَا رَتَحَتْ عَذَابَاتِ الْبَانِ رِيْحُ صَبَا

جب تک کہ باد صبا درخت بان کی شاخوں کو ہلائے

وَاطْرَبَ الْعَيْسَ حَادِي الْعَيْسِ بِاللَّغْمِ

اور اونٹوں کو طرب میں ڈالے حدی کے دالا لغموں سے

فَاغْفِرْ لَنَا شِدَاهَا وَاعْفِرْ لِقَارِيْهَا

پس معفرت کر اس کے مصنف کی اور بخشش کر اس کے پڑھنے والے کی

سَأَلْتُكَ الْخَيْرَ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ

بے شک میرا بھروسے یہی سوال ہے یا صاحب بخشش اور صاحب کرم کے



رَعَاءُ الْكِنَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں نہایت رحم والے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

اللہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں زندہ ہے و تلم

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا

اس کو نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند اسی کا

فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط

ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا

کون سفارش کر سکتا ہے اس کے یہاں مگر

بِذَنِّهِ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

اس کے حکم سے جانتا ہے لوگوں کے آگے (کے واقعات)

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ

اور کچھ کے اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے

مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ط وَسِعَ

علم میں سے کسی پر مگر جس قدر کہ وہ چاہے اس کی



كُرْسِيِّهٗ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ

کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو سما لیا ہے

وَلَا يُوَدُّهٗ حٰفِظُهُمَا ۚ وَهُوَ

اور بھاری نہیں اس پر ان دونوں کی حفاظت اور وہ

الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لَا اِكْرَاهَ فِيْ

برتر ہے عظمت والا دین کے معاملہ میں نہ ہوسکتی

الذّٰيْنَ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ

نہیں ہے کہ ہدایت جدا ہو چکی ہے گمراہی

الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوٰتِ

سے پس اب جو کوئی گمراہ کرنے والے کو نہ

وَيُوْمِنْ بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ

مانے اور اللہ کا یقین کرے تو اس نے اپنے سہارے

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰنِ لَا انْقِصَابَ لَهَا ۚ

کے لئے ایک مضبوط حلقہ تمام لیا جس کو ٹوٹنا نہیں ہے

وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ اللهُ وَرٰى

اور اللہ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اور اللہ دوست ہے

الذّٰيْنَ اٰمَنُوْا يَخْرُجُوْنَ مِنَ الظُّلُمٰتِ

ان کا جو یقین کرتے ہیں وہ ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے

اِلَى النُّوْرِ وَالذّٰيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓئُهُم

نور کی طرف اور جو لوگ کافر ہیں ان کا دوست



أَنَّهُ مَنُ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا

جس نے تم میں سے نادانی سے

بِحَمَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا

برائی کی پھر توبہ کی اور ایسا

وَاصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

عمل درست کیا تو ہے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے

وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَّاتِ وَ

اس قسم کے احکام کی تفصیل ہم اسی لئے کرتے ہیں اور

لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۝

تاکہ ظاہر ہو جاوے مجرموں کی راہ

فَلِرَأْفِي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَا

اور کہہ دو کہ مجھے ماننت کی گئی ہے کہ ان بتوں کی

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ

پرستش کرو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو

فَلِرَأْفِي تَابِعُ أَهْوَاءِكُمْ قَدْ

کہہ دو کہ اگر تمہاری خواہشوں کا پیرو ہو جاؤ تو

ضَلَلْتُمْ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ

گمراہ ہو جاؤں گا اور نہ ہوں گا ہدایت پانے والوں

الْمُهْتَدِينَ ۝ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ

میں سے پھر نازل کی تم پر



الطَّاعُونَ لَا يُخْرِجُونَهُمْ مِّنْ

شیطان ہے وہ ان کو نذر سے نگرہی

النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ

کی طرف نکالتا ہے (اس وجہ سے) یہ سب

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

دو زنجی ہیں جو دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے

ایک بار — اِعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ الْفِتَا ح

میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو کھولنے والا

الْقَابِضِ اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ

روح قبض کرنے والا ہے اور پناہ اللہ کی جو سنتا اور

الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

جانتا ہے اس شیطان سے جو رعت سے دور کیا گیا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا مہربان ہے

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

اور جب بیترے پاس وہ لوگ آویں جو ہمارے حکم کا یقین

بِآيَاتِنَا قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ

کہتے ہیں تو ان سے کہو کہ تم پر اللہ کا سلام ہو جس نے

رَبِّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

تمہارے لئے رعت کا وعدہ کیا ہے



مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةٌ نَّفَاسًا

پریشانی کے بعد امن کی حالت جو نسیب

يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ

مخفی جن نے تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانک لیا اور ایک جماعت

وَدَأْهَتَهُمْ أَنفُسَهُمْ يَظُنُّونَ

کو ان کے نفسوں نے پریشانی میں ڈالا کہ اللہ کی

يَا لَللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ط

بابت ناحق اور جماعت کی سہ بدگمانی کرتے آتے تھے

يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ

اور کہتے تھے کہ اب ہمارے لئے کوئی وسیلہ

مِنْ شَيْءٍ عِطُّ قُلُوبِ إِنْ الْأَمْرُ كَلَهُ

نہیں (اسے محسوس) کہہ دو کہ سب کاموں کا فیصلہ

لِلَّهِ ط يَخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا

اللہ کے اندر ہے اس وقت وہ اپنے دلوں میں وہ بات پوشیدہ

لَا يُبْدُونَ لَكَ ط يَقُولُونَ لَوْ كَانِ

کرتے تھے جو بخوشے ظاہر نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہمارا اختیار

لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَتَلْنَا

ہوٹا تو یہاں ہم مارے نہ جاتے

هَلْمَنَا ط قُلُوبِ لَوْ كُنْتُمْ فِي

تم کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی



بَيُوتِكُمْ لِبَرِّ الَّذِينَ كُتِبَ

ہوتے تو بھی وہ لوگ جن کے حق میں لارا

عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ

جانا لکھا ہوا ہے اپنے مقتل کی طرف نکل پڑتے

وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ

اور یہ اس لئے ہوا۔ تاکہ امتحان (ظاہر کرے)۔ اللہ وہ بات جو

وَلِيَمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ

تبار سے دل میں ہے اور غافلوں کو جو تمہارے دل میں ہے اللہ دل

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

کی باتوں کو خوب جانتا ہے حضرت محمد اللہ

رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ

کے رسول میں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کفار

عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں

تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجِدًا ابْتِغَاءَ

رکوعاً سجدہ کرتے ہیں اللہ کا فضل اور

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ

خوشی تلاش کرتے ہیں ان کی

فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ

پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہیں



ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۝

ان کی یہی خصلت تورات

وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ كَزُرْعٍ

اور انجیل میں ہے (کہ نیک لوگ ایسے ہو کرتے

اَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَتْهَا فَاسْتَعْظَمَ

ہیں) ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنا سرنکا لا

فَاسْتَوَىٰ عَلٰی سُوْتِهِ يُعْجَبُ

پس اونچا کیا پس وہ سخت ہو کہ سیدھی اپنی جڑ پر کھڑی ہو جائے

الزَّرَّاعَ لِيَغْفِظَ بِهِمُ الْكٰفِرَۗتِ

اور اپنے مالک کو خوش کرے تاکہ ایسے مسلمانوں سے اللہ کافروں کو

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا و

لہج میں لائے اور اللہ یقین کرنے والوں اور نیک علی

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً

کرنے والوں کے لئے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے

وَاَجْرًا عَظِيْمًا ۝

اور ثواب عظیم کا

اَلِفُ بَا تَا ثَا جِيْمُ حَا

الف با تا ثا جیم ح

حَا دَالُ ذَالُ رَا زَا سِيْنُ

ح دال ذال را زان سین



شَيْنُ صَادُ صَادُ طَا ظَا

شین صاد صاد طا ظا

عَيْنُ عَيْنُ فَا قَا كَا

عین عین فا قاف کاف

لَامُ مِيمُ نُونُ وَاوُ هَا

لام میم نون واو ہا

يَا - يَا رَبِّ سَهْلٌ وَيَسْرٌ

یا - یا اللہ ہمارا کام ہمارے لئے آسان کر

وَلَا تَعْسِرْ عَلَيْنَا يَا رَبِّ

اور ہم پر مشکلات نہ ڈال اسے پرورش کرنے والے!



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقُومَ إِلَّا بِاللَّهِ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ



دُعَاؤُ خَيْرِ الْبَحْرَيْنِ

تعلقات سے ہیں کہ ریح ابو الحسن ثناء اور غلامی تاجہ دار اور غلامی تاجہ دار اور وقت جگ لا ترمیم آیا۔ سفر عجیب کہ اس وقت فرمائے گئے کہ اس سال حج کرنے کی تبارت ہوئی ہے کہ اس سال حج کریں۔ اس لئے ضروری ہے۔ کہ

رَعَا حَزْبُ الْبَحْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے

يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ

اے اللہ بڑے بڑے بزرگ اے اے بڑے دہار

يَا عَلِيمُ أَنْتَ رَبِّي وَعِلْمُكَ

اے دانا تو ہی میرا پروردگار ہے اور تیرا ہی علم

حَسْبِي وَنِعْمَ الرَّبُّ رَبِّي وَ

نِعْمَ الْحَسْبُ حَسْبِي نَنْصُرُ مَنْ

تَشَاءُ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

جس کو چاہے اور تو ہی غالب اور رحم والا ہے

نَسْتُكَ الْعِصَّةَ فِي الْحَرَكَاتِ

سوال کہ تم میں ہم بحق سے حفاظت کا حرکات

وَالسَّكَّاتِ وَالْكَلِمَاتِ وَ

اور سکات اور بول چال الفاظ اور

جہاز کا تماشہ کریں۔ اس ایک سفر ان کا بھارتی شکل سے دستاویز پورا محاذ مقرر کر کے بعد جماعت دستار کے وار ہوئے جب جہاز کے بادبان درست ہوئے



اور علامت تاجہ دار سے جہاز نکلا۔ ادھر ہوا غافف شروع ہوئی، مجبوراً جہاز کو ننگہ انداز کرنا پڑا۔ اور باد غافف آٹھ لاکھ تک ایک ہی روپے پر توڑ پھینکی رہی۔ آٹھ ہزاروں تک فن و شگ سے طغندی شروع کیا کہ بشارت

فرماتے ہیں کہ بشارت غائبی کی ہے۔ اور وقت تقریباً اور ہم شیخ کو لاکھوں منگولین اور افغانوں میں ماخوڑیں سے سخت تلخ ہوا۔ علامت خوب کی بندہ سے غائب اور زمین علم ہوس (بانی برصغیر آئندہ)

بازدھوں گا۔ ہوا خافت
 یوں کیا۔ کہ جوئی باریان
 درست کیجئے۔ معاملے
 ہوا خافت سے باریان
 ہماز کو سر باریا۔ کہ کوئی
 علمہ یعنی اعلیٰ قبا عمل
 جب پیدار ہوئے (دو وا
 از صوفی لکھنؤ)

اِوْرَادَاتِ وَالْخَطَرَاتِ مِنْ

ارادوں اور خطرات میں جو از جنس

التَّظَنُّونَ وَالشُّكُّوكَ وَالْاَوْهَامَ

گمان اور شک اور وہم سے ہوں

السَّائِرَةِ يَلْقَوْنَ عَن مَّطَالَعَةِ

جو دلوں پر حجاب بن جانے والے ہلوسیدہ باتوں پر اطلاع

الْغَيُوبِ فَقَدْ اُبْتَلِيَ الْمُؤْمِنُونَ

چانے سے کہ مومنین بے شک امتحان میں ہو گئے ہیں

وَزُلْزُلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا

اور ہلاکے گئے ہیں سخت ہلایا حساباً

جب یہ لفظ یعنی شدیداً پڑھ چکے تو دہنی انگشت

شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کرے

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ

اور جب کہ کہتے تھے منافق اور وہ لوگ

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدْنَا

جن کے دلوں میں مرض ہے کہ ہم سے اللہ اور

اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِلَّا عُرُودًا ۝

رسول نے نہیں وعدہ کیا تھا مگر دھوکے کا

دست باندھو۔ کہ بادیان
 بیاب مستی اللہ کی
 کہ مزمزائی کا خیال رکھو
 جو نبی بادیان درست
 کیا۔ تو ہوا خافت تشریح
 ہوں اور بہت تشریح



سے خبر عافیت قرآن
 مقصود کہ پنج گئے
 مالک ہماز کے لئے
 شیخ صاحب کی حوازی
 سے متاثر ہو کر مشرف
 بہ اسم ہے۔ اسی

رات میں وہ نقران
 مالک ہماز عالم باریا
 میں دیکھتا ہے کہ شیخ
 جاعت نظیر کے ساتھ
 جنت میں جا رہے ہیں
 خواہش کی کہ میں بھی
 ان کے ساتھ ہو جاؤں
 مگر اللہ کریم نے روک
 دیا۔ کہ قرآن کے ساتھ
 جانے کا جائز نہیں۔
 میر علی الصبح وہ نقران
 راقی بصورت آئینہ

(تبیخ المصنوعہ)
جہاں تک کہ روضہ
صاحب مقام عالیہ کا
قرب و مدار کے واسطے
اس سفران کے وسیلے
سے فدا اعلیٰ کا مقرب
حاصل کرتے ہیں

فَتَيْتُنَا وَانصُرْنَا اس جگہ یعنی انصُرْنَا

ہیں ہم کو ثابت قدم رکھ اور غلبہ دے

پڑھنے میں مطلب کا دل میں خیال کرے

وَسَخَّرْنَا لَنَا هَذَا الْبَحْرَ كَمَا

اور ہمارے کار آمد کر دے اس دریا کو جیسا کہ

سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ

کار آمد کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام

السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ التَّنَمَّ

کے لئے اور کار آمد کر دیا تھا آبی کو

لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اور

سَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ

کار آمد کر دیا تھا پہاڑوں اور لوہے کو

لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ

حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے اور حکم میں کر دیا تھا

الرِّيحَ وَالشَّيْطَانَ وَالْجِنَّ

ہوا اور شیطان اور جنوں کو

لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرَ

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے اور ہمارے کار آمد



لے

جہاں مطلب کے تصور
کا اندازہ ہے۔ وہاں
رہائے اللہ دل میں
تصور کرے
(مؤلف)

لَنَا كُلُّ بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِي الْأَرْضِ

کر دے اپنے ہر اس دریا کو جو زمین میں ہے

وَالسَّمَاءِ وَالْمَلِكِ وَالْمَكُوتِ

اور آسمان میں اور ملک اور جہان میں ہو

وَبَحْرَ الدُّنْيَا وَبَحْرَ الْآخِرَةِ

اور دنیا کے دریا کو اور آخرت کے دریا کو

وَسَخَّرْنَا كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرٍ

اور ہمارے لار آدم کر دے ہر چیز کو اسے وہ ذات کہ

بِيَدِنَا مَكُوتٍ كُلِّ شَيْءٍ كَهَيْئَةِ

اسی کے قبضہ میں ہے ملکیت ہر چیز کی کاف لیا میں صاد

كَهَيْئَةِ مَكُوتٍ كُلِّ شَيْءٍ بِأَمْرٍ

کاف لیا میں صاد کاف لیا میں صلا

لِكَمَا كُنَّا، اس لئے کہ تین بار پڑھا جاتا ہے، اور

اس کے اول دفعہ پڑھنے میں ہر حرف کے ساتھ

انگلیاں داہنے ہاتھ کی بند کرے، اس طرح

کہ اول حرف کے ساتھ چھنگلیاں، پھر دوسرے حرف



کے ساتھ چھنگلیا کے قریب کی انگٹ، تیسرے حرف

کے ساتھ بیچ کی انگلی، چوتھے کے ساتھ انگلی شہادت

کی، پانچویں کے ساتھ انگوٹھا بند کرے، اور اسی طرح

بند رکھے، پھر دوسرے کھپے کے ساتھ

اسی ترتیب سے کھول دے، پھر تیسرے کھپے کے ساتھ

کے ساتھ بند کرے) اُنْصُرْنَا (یہاں پر یعنی

ہماری مدد کرے

اُنْصُرْنَا پڑھنے میں پہلی انگلی یعنی چھنگلیا کھول دے)

فَاِنَّكَ حَيْرٌ النَّاصِرِينَ وَافْتَحْ لَنَا

کیونکہ تو سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے اور ہم کو فتح دے

(یہاں اسی طرح دوسری انگلی کھول دے) فَاِنَّكَ

کیونکہ

حَيْرٌ الْفَاتِحِينَ وَاعْفِرْ لَنَا (یہاں

تو سب سے بہتر فتح دینے والا ہے اور بخش ہم کو



تیسری انگلی کھول دے (فَاِنَّكَ خَيْرٌ

کیونکہ تو سب سے بہتر بخشنے

الْغَافِرِينَ وَارْحَمْنَا (یہاں پر سچو سچی

والا ہے اور رحم کر ہم پر

انگلی کھول دے) فَاِنَّكَ خَيْرٌ الرَّاحِمِينَ

کیونکہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے

وَادْرُقْنَا (یہاں پر پانچویں انگلی کھول دے

اور ہم کو روزی دے

اور تہ کیب کھولنے کی وہی ہے جو بند کر نیکی ہے

فَاِنَّكَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ وَاحْفَظْنَا

کیونکہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اور ہماری حفاظت کر

فَاِنَّكَ خَيْرٌ الْعَافِيْنَ وَاهْدِنَا

کیونکہ تو سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور ہم کو ہدایت کر

وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَ

اور ہم کو ظالموں کی قوم سے بچا اور

هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رِيحًا طَيِّبَةً

غایت کر ہم کو اپنے پاس سے ایک اچھی ہوا

كَمَا هِيَ فِي عِلْمِكَ وَانْشُرْهَا عَلَيْنَا

جیسی کہ وہ تیرے علم میں ہے اور چلا اس کو ہم پر



مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَاحْمِلْنَا بِهَا

اپنی رحمت کے خزانوں میں سے اور بے چل ہم کو اس

حَمْلَ الْكِرَامَةِ وَمَعَ السَّلَامَةِ

کے ذریعے سے چنانچت کا اور مع سلامتی

وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَ

دین اور دنیا اور

الْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

آخرت کے امن جین کے ساتھ کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے

اللَّهُمَّ كَسِّرْنَا أَمْوَرَنَا زِيهًا بِرَبِّعِنِي

اے اللہ! آسان کر ہمارے لئے ہمارے تمام کام

امورنا پڑھنے میں مطلب کا دل میں خیال رکھے

مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوبِنَا وَأَبْدَانِنَا

دلوں اور بدنوں کے چین کے ساتھ

وَالسَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِنَا

اور سلامتی اور امن کے ساتھ ہمارے دین اور

وَدُنْيَانَا وَكُنْ صَاحِبَنَا فِي سَفَرِنَا

دنیا میں اور رہ ہمارا ساتھ سفر میں

وَخَلِيفَةً فِي أَهْلِنَا وَأَطْمَسْ عَلَيَّ

اور ہمارے پیچھے محافظ ہمارے گھربار میں اور بگاڑ دے



وَجُودِهِ (اس جگہ یعنی وجوہ پڑھنے میں تصور اعداء

منہ

داہنے ہاتھ کی مٹھی باندھ کر نیچے کو اشارہ کرے اور

کھول دے) اَعْدَائِنَا وَاْمْسُخْهُمْ

ہمارے دشمنوں کے اور ان کو مسخ کر دے

عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

ان کی جگہ پر کہ نہ طاقت رکھیں وہ

الْمُضِيِّ ۗ وَلَا الْمَرْجِيِّ ۗ اِلَيْنَا وَا

ہم پر گزرنے اور نہ ہماری طرف آنے کی (جیسا کہ تو نے

لَوْ كُنَّا لَطَمَسْنَا عَلَىٰ اَعْيُنِهِمْ

مزا یا ہے) کہ اگر چاہیں ہم تو ان کی آنکھوں کو پٹ کر دیں

فَاَسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَاَنَّىٰ يَبْصُرُونَ

کہ وہ راستہ کی طرف دوڑتے پھر میں پھر کہاں دیکھ سکتے ہیں

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ

اور اگر چاہیں تو مسخ کر دیں ان کو ان کی

مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا

جگہ پر پھر نہ طاقت رکھیں وہ وہاں سے

وَلَا يَرْجِعُونَ ۝ لَيْسَ ۝ وَالْقُرْآنِ

پہلے جانے کی اور نہ لوٹ سکیں ۝ یس ۝ تم ہے قرآن



الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

حکم کی ہے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں

عَلَىٰ صِرَاطٍ الْمُسْتَقِيمِ ۝ تَنْزِيلَ

سیدھے راستے پر یہ قرآن اتارا ہے

الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ لَتُنذِرَ

(خدا کے) غالب اور رحیم کا تاکہ ڈرائیں آپ

قَوْمًا مَّا أَنْذَرْنَاهُمْ فَهُمْ

اس قوم کو کہ ان کی پہلی نسلیں نہیں ڈرائی گئیں اس وجہ سے وہ

عَفْلُونَ ۝ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ

غافل ہیں سچا ہو چکا ہے (اللہ تعالیٰ کی) بات ان میں

عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا

بہتوں پر پھر بھی یہ ایمان نہیں

يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا جَعَلْنَا فِي

لاتے ہم نے ڈال دئے ہیں ان کی

أَعْيُنِهِمْ أَغْلًا لَا يَرَوْنَ إِلَىٰ

گردنوں میں طوق کہ وہ ٹھوڑوں

أَلْدُتَانِ فَهُمْ مُّقْتَدُونَ ۝

تک ہیں پس ان کے سر اٹل گئے ہیں

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ

اور قائم کر دیا ہے ہم نے ایک دیوار ان کے



سَدًا وَّ مِنْ حَلْفِهِمْ سَدًا

سانے اور آڑھے ان کے ایک دوار کہ

فَأَعَشَيْنَهُمُ فَمَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

اس نے ان کو آڑھیں کر دیا پس وہ دیکھ نہیں سکتے

شَاهَتِ الْوُجُوهُ شَاهَتِ الْوُجُوهُ

بگڑ جائیں منہ بگڑ جائیں منہ

شَاهَتِ الْوُجُوهُ رِيه كَلِمَتَيْنِ بَارِكَلْهَآگِيَا

بگڑ جائیں منہ

ہے، ہر بار یہاں دل میں اپنے دشمنوں کا خیال

رکھے کہ تباہ ہو جائیں، اور اللہ کا تھڑ زین پر مارے

ہر بار میں وَعَلَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ

(جیسا قیامت کے بارے میں ہے) اور جگمگ جائیں گے منہ (ضرائع الحجاز)

الْقَيَوْمِ وَتَدُخَابُ مَنْ حَمَلُ

قیوم کے سامنے اور خضار میں پڑا وہ جس نے گتہ کا

ظُلْمًا طَسَّ طَسَّ حَمَمَسَقْ

بار اعدا یا طس طس لاسم حمسق

مَدْرَجِ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقَيْنِ

ملا دیا دونوں دریاؤں کو ایک ساتھ بہتے ہیں



لے
میرا شیطان لا خیال
دل میں لاوے
دروغ (

بَيْنَهُمَا بُرْذَخٌ ۗ لَا يَبْغِيَانِ

اور بیچ میں ایک پردہ ہے ان کے۔ کہ اپنا حد سے تجاوز نہیں کر سکتے

حَمَّ حَمَّ حَمَّ حَمَّ حَمَّ

حَمَّ حَمَّ حَمَّ حَمَّ حَمَّ

حَمَّ حَمَّ (حَمَّ چونکہ سات مرتبہ پڑھا

حَمَّ حَمَّ

جاتا ہے، اس لئے سات جگہ لکھا گیا۔ پہلی بار

پڑھ کر داہنی طرف پھونک مارے اور دوسری

بار پڑھ کر بائیں طرف اور تیسری بار پڑھ کر

سامنے اور چوتھی بار پڑھ کر پیچھے اور پانچویں بار

پڑھ کر اوپر اور چھٹی بار پڑھ کر نیچے اور ساتویں

بار پڑھ کر دونوں ہاتھ پر اندر کی طرف دم کر کے

تمام بدن پر ملے، حَمَّ الْأَمْرُ وَجَاءَ

گرم ہوا کام اور آگ



النَّصْرُ قَعَلَيْنَا لَا يُنْصَرُونَ ه

دو پس وہ ہم پر فتح نہیں پا سکتے

حَمْرٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ

اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ غَافِرُ الذَّنْبِ

جو غالب ہے اور دانہ ہے گناہ کا بخشنے والا

وَقَارِبِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ

اور توبہ کا قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا

ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا

بڑے اختیار والا کوئی معبود اس کے

هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ بِسْمِ

سوا نہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے بسم اللہ

اللَّهُ يَا بَنَاتِ رَبِّكَ حِطَّانَا

ہمارا دروازہ ہے تبارک الذی ہمارا چار دیواری ہے

لَيْسَ سَقْفُنَا كَهَيْعَتِ

یہاں دلہنے لیس ہمارا پخت ہے کئی عرصے

بِأَنْفِ الْأَنْكَبِيَّاتِ بِنْدِ كَرِّ

چھنگلیاں بند کر کے چھنگلیاں سے شروع

کرے، انگوٹھے پر ختم کرے، اول حرف پڑھنے



میں چھنگلیا بند کرے، دوسرے پر اس کے پاس

والی، تیسرے پر درمیانی، چوتھے پر انگشت

شہادت، پانچویں پر انگوٹھا، ہر حرف کے پڑھنے

کے ساتھ ہی انگلی بند کرے (رُكْنَا يَتْنَا

ہم کو کافی ہے

حَمَسَقٌ) یہاں انگلیاں کھولنے ہر حرف

حَمَسَقٌ

کے ساتھ اسی ترتیب سے، کہ جس طرح بند کی

تھیں (حَمَّا يَتْنَا فَسَيُفِيكَهُمْ

ہماری پناہ ہے پس اللہ تجھ کو ان کے مقابلے میں

اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

کافی ہو جائے گا اور وہ سنے والا جاننے والا ہے

سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُورٌ عَلَيْنَا

عرش کا پردہ ہمارے اوپر چھوٹا ہوا ہے

وَعَيْنُ اللَّهِ نَاظِرَةٌ إِلَيْنَا بِحَوْلٍ

اور حق تعالیٰ کی نظر ہماری طرف متوجہ ہے اللہ تعالیٰ کی



اللَّهُ لَا يَفْتَدِرُ عَلَيْنَا سِتْرَ الْعَرْشِ

مدد سے کوئی ہم پر تلو نہ پائے گا عرش کا پردہ ہمارے

مَسْبُورٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ نَاطِرَةٌ

اوپر چھوٹا ہوا ہے اور حق تقاضے کی نظر ہماری طرف

إِلَيْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَفْتَدِرُ

متوجہ ہے خدا تعالیٰ کی مدد سے کوئی ہم پر تلو نہ

عَلَيْنَا سِتْرَ الْعَرْشِ مَسْبُورٌ

پائے گا عرش کا پردہ ہم پر چھوٹا ہوا ہے

عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ نَاطِرَةٌ

اور حق تقاضے کی نظر ہماری طرف متوجہ ہے

إِلَيْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَفْتَدِرُ

ہے حق تقاضے کی مدد سے کوئی ہم پر تلو نہ

عَلَيْنَا سِتْرَ الْعَرْشِ مَسْبُورٌ

پائے گا عرش کا پردہ ہم پر چھوٹا ہوا ہے

عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ نَاطِرَةٌ

اور حق تقاضے کی نظر ہماری طرف متوجہ ہے

إِلَيْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَفْتَدِرُ

حق تقاضے کی مدد سے کوئی ہم پر تلو نہ

عَلَيْنَا سِتْرَ الْعَرْشِ مَسْبُورٌ

نہ پائے گا عرش کا پردہ ہم پر چھوٹا ہوا ہے



عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ نَاظِرَةٌ

اور حق تعالیٰ کی نظر ہماری طرف

إِلَيْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَقْدِرُ

متوجہ ہے حق تعالیٰ کی مدد سے کوئی ہم پر قابو

عَلَيْنَا - سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُورٌ

نہ پاتے گا عرش کا پردہ ہم پر چھوٹا

عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ نَاظِرَةٌ

ہوا ہے اور حق تعالیٰ کی نظر ہماری طرف

إِلَيْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَقْدِرُ

متوجہ ہے حق تعالیٰ کی مدد سے کوئی ہم پر قابو

عَلَيْنَا - سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُورٌ

نہ پاتے گا عرش کا پردہ ہم پر چھوٹا ہوا ہے

عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ نَاظِرَةٌ

اور حق تعالیٰ کی نظر ہماری طرف

إِلَيْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَقْدِرُ

متوجہ ہے + حق تعالیٰ کی مدد سے کوئی ہم پر قابو

عَلَيْنَا وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ

نہ پاتے گا اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے

مَحِيطٌ ۝ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ

ہوئے ہے بلکہ یہ کتاب قرآن مجید ہے



فِي نُوْحٍ مَّخْفُوْطٍ ۝ فَاللّٰهُ

نوح محفوظ میں پس اللہ

خَيْرٌ حَافِظًا ۝ وَهُوَ اَرْحَمُ

ہی اچھا نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم

الرَّاحِمِيْنَ ۝ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا

کرنے والا ہے پس اللہ ہی اچھا نگہبان ہے

وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۝ فَاللّٰهُ

اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے پس اللہ

خَيْرٌ حَافِظًا ۝ وَهُوَ اَرْحَمُ

ہی اچھا نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم

الرَّاحِمِيْنَ ۝ اِنَّ لِّوَالِيِّ يَّ اللّٰهُ

کرنے والا ہے بے شک میرا مددگار اللہ

الَّذِي نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ

ہے جس نے اتاری کتاب اور وہی

يَتَوَلٰى الصّٰلِحِيْنَ ۝ اِنَّ

مددگار ہوتا ہے نیکوں کا بے شک

وَالِيًّا يَّ اللّٰهُ الَّذِي نَزَّلَ

میرا پروردگار اللہ ہے جس نے اتاری

الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلٰى الصّٰلِحِيْنَ ۝

کتاب اور وہی مددگار ہوتا ہے نیکوں کا



إِنَّ رَبِّيَ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ

بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے اتاری

الْكِتَابِ ۚ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝

کتاب اور وہی مددگار ہوتا ہے نیکوں کا

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

کافی ہے مجھ کو اللہ نہیں کوئی مبود سوائے اس کے

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور وہ پروردگار ہے

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ حَسْبِيَ

عرش عظیم کا کافی ہے مجھ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

کو اللہ نہیں کوئی مبود سوائے اس کے اسی پر بھروسہ

تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

کیا میں نے اور وہ پروردگار ہے عرش

الْعَظِيمِ ۝ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا

عظیم کا کافی ہے مجھ کو اللہ نہیں

إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ

کوئی مبود سوائے اس کے اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور

هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

وہ پروردگار ہے عرش عظیم کا



حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

کافی ہے مجھ کو اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور وہ پمردرگاہ ہے

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ حَسْبِيَ

عرش عظیم کا کافی ہے مجھ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

کو اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے اسی پر

تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

بھروسہ کیا میں نے اور وہ پمردرگاہ ہے عرش عظیم

الْعَظِيمِ ۝ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا

کافی ہے مجھ کو اللہ نہیں

إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ

کوئی معبود سوائے اس کے اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور

هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

وہ پمردرگاہ ہے عرش عظیم کا

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

کافی ہے مجھ کو اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور وہ پمردرگاہ ہے



الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ

عرشِ عظیم کا اس اللہ کے نام سے

الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَا اسْمُهُ شَيْءٌ

جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ

زمین میں اور نہ آسمان میں اور وہی

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ بِسْمِ اللَّهِ

سننے والا جاننے والا ہے اس اللہ کے نام سے

الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَا اسْمُهُ شَيْءٌ

جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ

زمین میں اور نہ آسمان میں اور وہی

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ بِسْمِ اللَّهِ

سننے والا جاننے والا ہے اس اللہ کے نام سے

الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَا اسْمُهُ شَيْءٌ

جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ

زمین میں اور نہ آسمان میں اور وہی

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَلَا حَوْلَ

سننے والا جاننے والا ہے اور نہیں ہے قوت



وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

اور نہ طاقت مگر ساتھ اللہ برتر و بزرگ کے

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اور نہیں ہے قوت اور نہ طاقت مگر ساتھ اللہ برتر و بزرگ کے

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝ وَلَا حَوْلَ

کے اور نہیں ہے قوت

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

اور نہ طاقت مگر ساتھ اللہ برتر و بزرگ کے

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ

اور رحمت کاملہ نازل فرمائیے حق تعالیٰ اپنی بہترین مخلوق

مُحَمَّدًا وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور آپ کے آل و اصحاب

أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

سب پر اپنی رحمت سے اے ارحم

الرَّاحِمِينَ ۝

الراحمین



دُعَاةُ اِخْتِمَامٍ

يَا اللَّهُ يَا نُورُ يَا حَقُّ يَا مُبِينُ

اے اللہ اے نور اے حق اے ظاہر کرنے والے

اَكْسَبْنِي مِنْ قُدْرِكَ وَعَلِمَتِي مِنْ

اپنے نور کا لباس مجھے پہنا اور اپنا علم مجھے سکھا

عِلْمِكَ وَفَهْمَتِي عَنْكَ وَاسْمِعْنِي

اور اپنی طرف سے سمجھ دے اور اپنا علم مجھے

مِنْكَ وَابْصُرْنِي بِكَ رَانَكَ عَلَيَّ

سنا اور اپنی معرفت دے بے شک تو ہر چیز

كُلِّ شَيْءٍ قَدَائِرُهُ يَا سَمِيعُ يَا عَلِيمُ

پر قادر ہے اے سنے والے اے دانے

يَا حَلِيمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ اسْمِعْ

اے بردبار اے برتر اے عظیم الشان اپنی

دُعَائِي بِخَصَائِصِ لَطْفِكَ اٰمِيْنُ

مہربانی سے میری دعا سن آمین

اٰمِيْنُ اٰمِيْنُ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ

آمین آمین میں اللہ کے نام



اللَّهُ التَّامَاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ

حکوں کے ذریعے ان تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں

مَا خَلَقَ مَا أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ

جن کو اس نے پیدا کیا ہے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے کلام

التَّامَاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

احکام کے ذریعے ان تمام کے شر سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے

يَا عَظِيمَ السُّلْطَانِ يَا قَدِيمَ

اے عظیم الشان بادشاہ اے قدیم سے

الْإِحْسَانِ يَا دَائِمَ النِّعَمِ

احسان کرنے والے اے ہمیشہ سے نعمت دینے والے

يَا بَاسِطَ الرِّزْقِ يَا وَاسِعَ

اے رزق پھیلانے والے اے زیادہ عظمت

الْعَطَا يَا دَافِعَ الْبَلَايَا

داے اور اے آفتوں کو دفع کرنے والے اے

حَاضِرًا لَيْسَ بِغَائِبٍ يَا مُوجِدًا

حاضر نہ ہونے والے حاضر اے سختیوں

عِنْدَ الشَّدَايِدِ يَا مُجِيبَ السَّرِّ

کے وقت مدد کرنے والے اے بھل ستر والے

يَا خَفِيَّ اللَّطْفِ يَا لَطِيفَ الصَّنْعِ

اے پوشیدہ مہربانی والے اے عمدہ کاریگری والے



يَا حَلِيمًا لَا يَعْجَلُ بِأَجْوَادِ الْإِنْبِيَاءِ

ایسا بردبار جو مزادینے میں جلدی نہیں کرتا اسے بے جمل سنی

اقْضِ حَاجَتِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

اپنی رحمت سے میری حاجت پوری کر دے اے سب سے بڑے

الرَّاحِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

رحم کرنے والے اے اللہ! میں تجھ سے تیرے نام کے

بِأَسْمِكَ الْمَخْرُوجِ الْمَكْنُونِ

وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جو محفوظ ہے پوشیدہ ہے

السَّلَامِ الْمُنْزِلِ الْقُدُّوسِ

سلامت ہے نازل کرنے والا ہے پاک

الْمُطَهَّرِ الظَّاهِرِ يَا ذَهْرَ يَا

پاک کرنے والا پاک تیرا نام ہے دہر

ذِيهَا يَا دِيهَوْرَ يَا أَزَلَ يَا

اے وہ جس کا شروع نہیں اور جس کی

أَيْدٍ يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

انتہا نہیں ہے وہ جس نے کبھی کو نہ بنا اور نہ کسی سے پیدا ہوا

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ يَا مَنْ

اور نہ کائنات میں اس کی کوئی مثل ہے اے وہ جو

لَمْ يَزَلْ يَا هُوَ يَا هُوَ يَا هُوَ مَنْ

ہمیشہ سے ہے اے وہ اے وہ اے وہ جس کے سوا



لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَا كَافِرَانُ

کوئی معبود نہیں اے وہ جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے تھا

يَا رُوحُ يَا كَاثِرٌ بَعْدَ كُلِّ قَوْمٍ

اے روح اے وہ جو ہر قوم کے گناہوں کے بعد ہر قوم کے لیے

إِهْبَاءِ أَشْرَاهِيا اذْوَ فِي أَصَابُوتُ

انہی میں سے کوئی بھی زوال نہیں ہے اے وہ داغ جو کبھی کوئی نہیں

يَا مَحَبِّي عَظَايِمِ الْأُمُورِ سُبْحَانَكَ

اے محبتوں کو دور کرنے والے تو پاک ہے

عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ تَدَارِكِ

کہ قدرت کے بعد سات لگتا ہے

فَلَنْ تَوَلَّوْا فِئْتَلِ حَسْبِي اللَّهُ

اگر وہ راہ راست سے پھریں تو کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اس پر میرا بھروسہ ہے

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

اور وہ عرش عظیم کا پیدا کرنے والا ہے

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ

جس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سب کچھ سنا

الْعَلِيمُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اور جانتا ہے اے اللہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

پر اور ان کے اہل پر رحمت نازل کر جیسا کہ تو نے

صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ

رحمت نازل کی تھی حضرت ابراہیم پر اور ان کے

آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

کے اہل پر یقیناً تو قابل تریف بزرگ ہے

مُحَمَّدًا ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ

اسے اللہ برکت نازل کہ حضرت محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

(صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور ان کے اہل پر جیسا کہ تو نے

بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ

برکت نازل کی تھی حضرت ابراہیم پر اور ان کے اہل

آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

پر یقیناً تو قابل تریف بزرگ ہے



۲۹۰
 حضرت اقدس علیؑ نے پوچھا: اس میں
 اس کے بکھریا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 حضرت اقدس علیؑ نے پوچھا: اس میں
 کے اور ہم پرورش دیا جو
 ۱۷۱ آیات ہیں۔ اللہ ایک طباق
 میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک
 علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ ایک
 ایک بار حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

کلیا ہے، اور اب اسے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 میں رہنے والے ہیں اس
 پھیلانے کو چاہتا ہوں۔ اس
 جی نہیں ہے۔ اس کو آگ
 کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب میں
 آپ کے پاس آیا ہوں۔
 آپ اس کو بھی طرب جان
 سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

دَرُودِ مَاہِي



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

اے اللہ درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَلْقِ وَافْضَلِ الْبَشَرِ

آل پاک پر جو ساری مخلوق سے اچھے اور سب انسانوں سے افضل

وَشَفِیْعِ الْاٰمِرِ یَوْمِ الْحُسْرِ وَالنُّشْرِ

ہیں۔ اور قیامت کے دن ساری امتوں کے شفیع ہیں

وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

اور صلوٰۃ بھیج ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَبْعَادِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ

آپ کی آل پر اپنے معلومات سے ہر پیمانے کے انداز سے ہر

وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ

اور درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلٰی جَمِیْعِ

اور برکت بھیج اور سلام بھیج اور درود بھیج اپنے سب



علیہ وسلم نے اس مجلس سے
 پوچھا۔ وہ حکم خداوندی ہے
 رضی اللہ عنہما۔ ایک روز میں
 اللہ علیہ وسلم: ایک آدمی
 یا نبی کفری تھی۔ ایک آدمی
 اس درود شریف کو پڑھو
 اور اس کی آواز سے
 قاتل اور اس کے آواز سے
 کا خون میں بہتی اور میں نے
 کو نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا: اے علی! اس درود شریف
 کو کہہ لو۔ اور لوگوں کو سکھا دو۔
 انشاء اللہ درود شریف کا ایک بار پڑھو۔
 تمام ہوا جائیگا۔ درود شریف
 مبارک ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم اور علیؑ کی رحمت
 خیر فلاحی الخ

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَصَلِّ عَلَى كُلِّ

نبیوں ۳ اور رسولوں ۲ پر اور دو درجہ سب فرشتوں

الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ

مقرَّبین پر اور اپنے عزیز بندوں پر

الضَّالِّحِينَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

اور سلام بھیج بہت بہت سلام

بِرَحْمَتِكَ وَبِفَضْلِكَ وَبِكْرَمِكَ يَا أَرْحَمَ

اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اور فضل سے اسے بزرگوں کے

الرَّحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

بزرگ اپنی رحمت سے اسے بڑے رحم کرنے والے

يَا قَدِيمُ يَا دَائِمُ يَا سَحِيحُ يَا قَيُّوْمُ

اسے پرانے اسے ہمیشہ رہنے والے اسے ذرہ اسے قائم رہنے والے

يَا وَتَدُّ يَا أَحَدًا يَا صَدُّ يَا مَنْ

اسے الجھلے اسے واحد اسے بے نیاز اسے وہ ذات جو

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ

کسی کا والد نہیں اور کسی کا مولود نہیں اور اس کا کوئی

لَهُ كُفُوًا أَحَدًا ۝ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

بھی بدل نہیں تیری رحمت سے اسے بڑے

الرَّاحِمِينَ ۝

رحم کرنے والے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَقِيَ إِلَّا اللَّهُ

بِالْحَيِّ بِأَقْبَسِ



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَجْمَعِينَ

دُعَائِي مُسْتَجَابٌ

سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

پاک ہے تو اے اللہ نہیں کوئی معبود مگر

أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْمُبْدِي الْمُمْسِكُ الْحَسْبُ سُبْحَانَكَ

تو بزرگوار ہے برائی والا ہے پاک ہے تو

أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اے اللہ نہیں کوئی معبود مگر تو

الْمُبْدِي الْمُمْسِكُ الْمُبْدِي سُبْحَانَكَ أَنْتَ

پیدا کرتے والا ٹوٹانے والا ہے پاک ہے تو اے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّطِيفُ

اللہ نہیں کوئی معبود مگر تو باریک بین

الْخَبِيرُ سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ

خبردار ہے پاک ہے تو اے اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الصَّمَدُ الْمَعْبُودُ

نہیں کوئی معبود مگر تو ہے نیاز معبود ہے

سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

پاک ہے تو اے اللہ نہیں کوئی معبود مگر

أَنْتَ الْوَاحِدُ الْمَجِيدُ الرَّحْمَنُ

تو بڑی شان والا بڑا مہربان

الرَّحِيمُ ○

نہایت رحم والا



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ نَامَةُ اللَّهِ لِقَوْلِهِ الْإِسْلَامُ

بِالْحَقِّ وَالْحَقِيقَةِ



دُعَائِيٌّ مَاثُورَةٌ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ میری قبر پر آجائے اور وہ فرمایا کہ میں نے تم سے دعا کی کہ تم میری قبر پر آجائے۔

دُعَا بَابِ مَاتُورَةٍ

دُعَا بزرگوار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو زمین و آسمان کا

الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ

مہک ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو آسمانوں

رَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

زمینوں اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے

وَلَهُ الْكِبْرِیَاوُفِ السَّمٰوٰتِ

زمین و آسمان میں بڑائی تو اسی کے شایان شان

اس کا نواب پڑھنے والے کے ہاں باپ کو دیں گے اور گویا کہ ابن الزالمین اور کیا اور دعا کے کرم و مستطاب ہے الحمد لله رب السموات والارض



استاد میں اس دعا سے
بہنو کو ادر کے بنی صاحب
حضرت اقدس علیہ السلام
نے فرمایا ہے کہ جو کوئی
اس دعا کو پڑھے یا اپنے
بھائی کو پڑھے اس کو ہر
اور فرزندوں سے تو نجات
پائے اور اگر کسی کو
توصیت پڑھے تو
ادر کے واسطے جو یاد
مرا حاصل ہو یاد
اگر تکلیف ہو تو خوش ہو
یاد سے ادر اگر چاہیں
ہو دے تو نام بن جائے
اگر اگر تیرے ہو دے تو
خدا ہی پادے اور اگر
جو دے چاہے تو جو دے

أَعِثْنِي يَا مَنْ هُوَ يَا لَوْلَا إِلَهَ إِلَّا

میری زیادرسی نما اے وہ ذات کہ تیرے سوا کوئی مبود نہیں

هُوَ لِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا

اللہ کے نام سے چلنا ہے اور اللہ کے نام سے ٹھہرنا ہے

إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ وَصَلَّى

ہے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے اور اللہ

اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدًا

اپنی افضل مخلوق حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ

وَالِإِلَهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ

کی آل پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب پر اپنی رحمت

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ هُ

سے صلوة پڑھئے

دُعَاءُ مَكْرَم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هُ

شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے

اللَّهُمَّ يَا رَجَائِي يَا مَنَارِي يَا

اے اللہ! اے میری امید اے میرے زیادرس اے

عِيَارِي يَا مُرَادِي يَا شَفَاعِي يَا

میری مراد اے میری شفا اے



اور اگر سفر میں جاوے
تو وطن کو سلامت آئے
اور اگر اعتقاد سے
پڑھے، تو اللہ تعالیٰ
کے نور اقدس کو جواب
دے دیکھے اور پندہ
میں دیکھے تو حضور
زین العابدین علیہ السلام
اقدس علیہ السلام
کو جواب میں دیکھے۔
دعا یہ ہے :-
اللَّهُمَّ يَا رَجَائِي
يَا مَنَارِي ... الخ

كَمَا فِي كَفَيُّ يُحْيِي يَا عَفُورُ يَا

کفایت کرنے والے اسے زندگی دینے والے اسے بخشنے والے اسے گناہ

عَفُورُ يَا عَفُورُ اخْفِرْ لِي خَطِيئَتِي

بخشنے والے اسے بخشنے والے: قیامت کے دن میری خطاؤں کو

يَوْمَ الدِّينِ يَا اَللهُ يَا اَللهُ يَا

بخش دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے

اَللهُ يَا عَفُورُ يَا عَفُورُ يَا عَفُورُ

اللہ اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے بخشنے والے

يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ يَا

اے مہربان اے مہربان اے مہربان اے

رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا كَرِيمُ

رحم کرنے والے اے رحم کرنے والے اے رحم کرنے والے اے سخی

يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى

اے سخی اے سخی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے

عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَتُورِعُ رُشْدَهُ

ساری مخلوق کے سردار اور روشِ اعظم کے روشن کرنے

نَبِيِّنَا وَشَفِيعِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

وہاں ہمارے نبی اور ہمارے شفیع حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور

وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ

آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمت نازل کرے



اس دعا کے معظم کے مقبول ہونے کا
مقول ہے کہ جو شخص اس
دعا کے مکرم کو طہارت
پر نوازدہ دعا کے ساتھ
مائل کرنے کے بعد
بدبختیوں کو صدقہوں
سے پڑھے اور اول دو
آخر تین تین مرتبہ درود
شریف بھی پڑھے۔ تو

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

اے رحم کرنے والوں کے رحم کرنے والے

۞ دعا کے معظم

برائے داخل ہونے جنت کے

اَللّٰهُمَّ يَا اِلٰهَ الْبَشَرِ وَيَا عَظِيْمَ

اے اللہ! اے انسانوں کے مجبور درجن اے بڑے شان

الْخَطِرِ وَيَا وَّاسِعَ الْمَغْفِرَةِ وَ

واے اے وسیع بخشش والے اور

يَا عَزِيْزَ الْمَنِّ وَيَا مَالِكَ يَوْمِ

مائب احسان والے اے قہامت کے مالک

الدِّيْنِ بِحَقِّ اِيَّاكَ لَعْبُدُ وَ

ساتھ وسیلہ اٹھاؤ شہد و

اِيَّاكَ سَتَعِيْنُ بِرَحْمَتِكَ يَا

ایاک ستعین کے تیری رحمت سے اے

اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ بِسْمِ اللّٰهِ

بڑے رحم کرنے والے شروع اللہ کے نام سے

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا اِلٰهَ

جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے مہارے جمانوں



بفضلہ قائلے نام
دینی اور دنیوی آفات و
بلیات سے امن و
امان میں رہے گا۔
اگر بھتی ہونے کا فرق
کے پڑھے انوسب
کے چلے بہت میں
داخل ہونے اور
پسوخ میں پاد سے اور
روزانہ میں بھی بخاتش ہو
کیا غلوں تلخی ضروری ہے
بغداد و قریطیہ السلام
دعا کے معظم ہے
اللہم یا اللہ البش
ویا عظیمہ...

اللہم یا اللہ البش
ویا عظیمہ...

حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہما سے بھی کہ جو بے بس کی ناز و قضا مری قبول ہوتی ہے اور ابیہرین غمان بن غمان رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ سات برس اور دیگر روایت ہوتی ہے بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک بار بے بس کی ناز اس کی قبول ہوتی ہے تب تیرہ کی حضرت رسالت پناہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی بے بس کی جو گئی ہو

الْعُلَمَاءِ وَ يَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ

کے مہجور اسے بہترین مددگار

و يَا حَيَاتِ الْمُسْتَغِيثِينَ بِرَحْمَتِكَ

اسے زیادہ چاہنے والوں کے زیادہ درس اپنی رحمت سے

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ هُ

اسے بڑے رحم کرنے والے

دُعَاءُ وَبِگَر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ هُ

شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ قَبْلَ كُلِّ اَحَدٍ وَ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو سب سے پہلے ہے اور

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ يَعْدُ كُلِّ اَحَدٍ وَ اَلْحَمْدُ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو ہر ایک کے نتیجے سے اور سب

لِلّٰهِ عَلٰی كُلِّ نِعْمَةٍ بِرِ اَلْحَمْدِ

تعریف اللہ کے لئے ہے اس کی تمام نعمتوں پر اور سب تعریف

لِلّٰهِ عَلٰی كُلِّ حَالٍ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰی

اللہ کے لئے ہے ہر حال پر اللہ تعالیٰ اپنی بہترین مخلوق

خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ وَ

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کی آل پاک اور



استے بے بس کہاں سے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضا مری اس کے پیچ کی اور اس کی ماں کی اور اس کے بیٹوں کی اور اس کے بارہ دوستوں کی قضا ناز قبول ہو دے گی دعائے معظم و مکرم ہے الحمد لله قبل كل واحد الحمد لله الحمد لله

أَصْحَابِيهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا

صحابہ کرام رحمہ سب پر رحمت

أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ○

کرے

وَعَائِي وَيَكْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞

شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فِي السَّمَاءِ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس کا عرش آسمانوں

عَرْشُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فِي

میں ہے سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس کا

الْجَنَّةِ رُؤْيَتْهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فِي

دیدار جنت میں ہوگا سب تعریف اللہ کے لئے ہے

الْقُبُورِ قَضَاءُ ۞ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

جس کا فیصلہ قبروں میں ہے سب تعریف اللہ کے لئے

الَّذِي فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ حُكْمُهُ

ہے جس کا حکم خشکی اور تری میں ہے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فِي جَهَنَّمَ سُلْطَانُهُ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس کی ایک دیل دوزخ ہے

میں غریبوں کی صلوات و سلام
نے فرمایا ہے کہ اس دعا
کو لو پاکستان میں ایسا بار
پڑھے، تو تین ہزار برس
کے اللہ تعالیٰ کی دستان
سے عذاب اٹھائے
اور اگر دوبار پڑھے، تو



قیامت تک عذاب نہ
ہو سکے اور اگر گریہ
باپ پڑھے ایسے رات جو
کے تو نہیں صلی اللہ علیہ
و سلم کو خواب میں دیکھے
اور اگر کہیں باپ پڑھے
تو وہی اللہ عزت کو
خواب میں دیکھے اور

وَعَائِي وَيَكْرِ
بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي
فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ ۞

توبہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا الیٰ
اور پھر بیخود وقت نہ گزرتی
نورسکے دیکھو۔ اس کے
بچھڑا دھوکا نہ کھو

کر یا محمد صلی اللہ
علیہ وسلم یہ دعا ہے کہ سات
آسمان سات زمین کو پیدا
نہیں کیا تھا۔ اس کے
آنکھ سے اس دعا کو
پیدا کیا میں نے دعا کو
تھمارے اور تھامی امت
کے اور یہ دعا اور کسی
پیغمبر کے بھی نہیں جب



اللہ تعالیٰ سے بڑا سخی
تو خوش ہو میں اور
قاب تو سینا کو اور
اللہ تعالیٰ کے قریب کو
حاصل کیا۔ میں نے اس
دعا کو تفریح کیا جب کہ

إِلَهِي لَا سُلْطَانَ إِلَّا أَنْتَ وَلَكَ الْحَمْدُ
اے اللہ! نہیں کوئی بادشاہ مگر تو ہی تیرے لئے تریف ہے
إِلَهِي لَا بُرْهَانَ إِلَّا أَنْتَ وَلَكَ الْحَمْدُ
اے اللہ! نہیں کوئی دلیل مگر تو ہی تیرے لئے تریف ہے
إِلَهِي لَا عِجَابَ رَأَى إِلَّا أَنْتَ وَلَكَ الْحَمْدُ
اے اللہ! نہیں کوئی زبردست مگر تو ہی تیرے لئے تریف ہے
إِلَهِي لَا قَهْرًا رَأَى إِلَّا أَنْتَ وَلَكَ الْحَمْدُ
اے اللہ! نہیں کوئی تر کرنے والا مگر تو ہی تیرے لئے تریف ہے
إِلَهِي لَا نَاصِرَ إِلَّا أَنْتَ وَلَكَ الْحَمْدُ
اے اللہ! نہیں کوئی مددگار مگر تو ہی تیرے لئے تریف ہے
إِلَهِي لَا قَادِرَ إِلَّا أَنْتَ وَلَكَ الْحَمْدُ
اے اللہ! نہیں کوئی قدرت والا مگر تو ہی اور تیرے لئے تریف ہے
إِلَهِي لَا بَصِيرَ إِلَّا أَنْتَ وَلَكَ الْحَمْدُ
اے اللہ! نہیں کوئی دیکھنے والا مگر تو ہی اور تیرے لئے تریف ہے
إِلَهِي لَا سَمِيعَ إِلَّا أَنْتَ وَلَكَ الْحَمْدُ
اے اللہ! نہیں کوئی سننے والا مگر تو ہی اور تیرے لئے تریف ہے
إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ حَاكِمُ السَّمَوَاتِ
اے اللہ! نہیں کوئی مبود مگر تو ہی آسمانوں اور زمینوں

اور با محمد صلی اللہ
علیہ وسلم اس دعا کی بہت سے ایک
دہم میں آسمان سے زمین پر آیا ہوں۔
شرح بہت ہے، اس دعا کی بہت سے ایک
کہا۔ کہ یہ جبرائیل علیہ السلام نے
میرا نبی میرے حال کے اور یہ کہی۔ اور اس دعا
کی تبارت دعا۔ توبہ جبرائیل علیہ السلام نے
کہ اسے بجاتی جبرائیل! اللہ تعالیٰ سے کہا میں نے
قبول ہووے اور جبرائیل علیہ السلام نے
باجھڑا علی اللہ علیہ وسلم کہے کہا۔
تمام فرشتے آسمان اور زمین کے اور مشق و
کسی کے اور روح و سلم کہنے کہا۔
اور با محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی بہت سے ایک
دہم میں آسمان سے زمین پر آیا ہوں۔
(دعا کی بہت سے ایک)

یہیہ از منقولہ مستفی
یا کلمہ کہ اس کے میں دعو
کی پیاد سے تو آجھا ہو
جاد سے اور حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو کوئی اپنے گھر میں
اس دعا کو پڑھے تو



روزی کا نذر اس کی زیادہ
ہو۔ اور قضا کا نہ ہو کہ
اور جو کوئی حاجت مند
تجربہ کے وقت اس
دعا کو پڑھے۔ اور کے
دعا کو پڑھے گا میری

کہ لے پورہ دگا میری
حاجت بردار۔ اگر نہ از اولتین
ہوں گی، دنیا یا دین کی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد کسی کی باندھی ہو کہ
توشک اور غفران سے لکھ کر دھو کر پیلا ہے

إِلٰهِي أَنْتَ تَوَلَّجْتَ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ
اے اللہ! تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات
تَوَلَّجْتَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَلَكَ الْحَمْدُ
میں داخل کرتا ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے۔
إِلٰهِي أَنْتَ الْقَرِيبُ الْمَجِيبُ وَلَكَ الْحَمْدُ
اے اللہ! تو ہی قریب قبولیت والا ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے
إِلٰهِي أَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ وَلَكَ الْحَمْدُ
اے اللہ! تو ہی قبول کرنے والا رحیم والا ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے
إِلٰهِي أَنْتَ رَبُّ الْأَرْبَابِ وَلَكَ الْحَمْدُ
اے اللہ! تو ہی ہانے والوں کو پالنے والا ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے
إِلٰهِي أَنْتَ سَيِّدُ السَّادَاتِ وَلَكَ الْحَمْدُ
اے اللہ! تو ہی سرداروں کا سردار ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے
إِلٰهِي أَنْتَ مِنْهُمْ الدَّرَجَاتِ وَلَكَ الْحَمْدُ
اے اللہ! تو ہی درجات کا انعام دینے والا ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے
إِلٰهِي أَنْتَ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَلَكَ الْحَمْدُ
اے اللہ! تو ہی آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے
إِلٰهِي أَنْتَ الْفِتَّاحُ الْبِقَاتِ وَلَكَ الْحَمْدُ
اے اللہ! تو ہی کھولنے والا ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے

تو شاد ہو جاوے اور اس کی استابت
تمام دریاؤں کی سیاہی ہو کہ اور سب
آدمی بن دلائیگ مل کر قیامت تک کہیں تو
جی نہ لکھیں۔ اور اللہ اعلم بالصواب
دعا کے کرم و عظم ہے۔ اللهم لك
الحمد لا اله الا انت
لا اله الا انت

إِلَهِي أَنْتَ خَالِقُ الْجَبَّارِ وَ لَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی زبردست پیدا کرنے والا ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ الْقَهَّارُ الْقَاهِرُ وَ لَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی بڑے قہر والا ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ وَ لَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی بے نیاز واحد ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے۔

إِلَهِي أَنْتَ الْوَاجِبُ الْمَلْجَبُ وَ لَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی ثابت بزرگ ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ الرَّشِيدُ الْمُرْتَدُ وَ لَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی ہدایت والا مرشد ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی مومنوں کا سردار ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ وَ لَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی ظاہر و باطن ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ وَ لَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی اٹھانے والا وارث ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ الْغَيْبُ الْمَغِيْبُ وَ لَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی فریاد رس ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَ لَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے



إِلَهِي أَنْتَ الْعَفُورُ الشُّكُورُ وَلَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی بخشنے والا شکر گزار ہے اور تیرے ہی لئے تریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ الْمُبْصِرُ الْقَدُّوسُ وَلَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی پاکیزہ صورت بنانے والا ہے اور تیرے ہی لئے تریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ النُّورُ الْمُنِيرُ وَلَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی روشن روشنی دینے والا ہے اور تیرے ہی لئے تریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ الْعَفُورُ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی بخشنے والا ہے اور تیرے ہی لئے تریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ الشُّكُورُ الْمَجِيدُ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی شکر قبول کرنے والا بزرگ قبولیت والا ہے اور تیرے ہی لئے تریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ الْبَدُّ الرَّحِيمُ وَلَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی نیک رحم والا ہے اور تیرے ہی لئے تریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ الْقَدِيمُ الْبَاقِيُ وَلَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی قدیم باقی ہے اور تیرے ہی لئے تریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ الْعَزِيزُ الْمُعَزَّزُ وَلَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی غالب عزت دینے والا ہے اور تیرے ہی لئے تریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ تَعِيدُ الْمَعَاشِرَ وَلَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی قبائل کو لوٹانے والا ہے اور تیرے ہی لئے تریف ہے

إِلَهِي أَنْتَ خَالِصُ الْإِخْلَاصِ وَلَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی خالص اغلاص والا ہے اور تیرے ہی لئے تریف ہے



إِلَهِي أَنْتَ قَاضِي الْحَاجَاتِ وَلَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے اور تیرے ہی لئے قرین ہے

إِلَهِي أَنْتَ الْحَيَّانُ الْمَنَّانُ وَلَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی مہربان احسان کرنے والا ہے اور تیرے ہی لئے قرین ہے

إِلَهِي أَنْتَ الرَّفِيعُ الْمَنَافِعُ وَلَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی بلند پختہ والا ہے اور تیرے ہی لئے قرین ہے

إِلَهِي أَنْتَ الرَّفِيعُ الْبَدِيعُ وَلَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی بلند پیدا کرنے والا ہے اور تیرے ہی لئے قرین ہے

إِلَهِي أَنْتَ الْمَالِكُ الْمَلِكُ وَلَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی ملک کا مالک ہے اور تیرے ہی لئے قرین ہے

إِلَهِي أَنْتَ عَلَومُ الْغُيُوبِ وَلَكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! تو ہی پوشیدگی کو جاننے والا ہے اور تیرے ہی لئے قرین ہے

إِلَهِي أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اے اللہ! تو ہی ایک اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ

حاضر و غائب کا جاننے والا ہے مہربان اور رحم

الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

دالا ہے وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں

إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ

وہ بادشاہ ہے پاکیزہ ہے سلامتی والا ہے



اسناد و مدار اصطلحانی
 انہوں کے روایت
 ہے کہ حضرت محمد رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اول روز تہجد میں یہ
 سوزہ کے پیچھے لے کر
 حضرت جبرائیل علیہ السلام
 تشریف فرما ہوئے اس کے
 وقت پڑھنے والی اللہ
 اور کہا یا محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم اتق ناقصاتی
 اور پڑھا سے درود اور
 سلام بھیجا ہے۔ اور یہ
 بڑی تمنا دی امت کو
 بھیجا ہے کہ کبھی پتھر کو
 نہیں بھیجا۔ اور یہ اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کون

المؤمنين العزيز الجبار

امن والا ہے تمکبان ہے غالب ہے زبردست ہے

المشكرو سبحان الله عما يشركون

بڑا حق والا ہے اللہ اس چیز سے پاک ہے جو وہ شریک کرتے ہیں

هو الله الخالق البارئ المصور

وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا ہے صورتیں بنانے والا ہے اس

له الاسماء الحسنى يسبح له

کے اچھے نام ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز

ما في السموات والارض وهو

اسی کی حیثیت بیان کرتی ہے اور وہی

العزيز الحكيم

غالب حکمت والا ہے

وَعَمَّا وِجْهٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا جَبَلِ يَا اَللهُ يَا قَرِيبُ يَا اَللهُ

اے بزرگی اے اللہ! اے نزدیک اے اللہ!



اس دعا کو پڑھنے یا اپنے
 پاس رکھے، تو گناہ اس
 کے برابر کوہ قاف کے
 ہو دیں یا برابر دریا کے
 پانی کے ہو دیں تو اللہ
 قاضے صاف کرتا ہے

چچو جبرائیل علیہ السلام ابو کوفہ اس
 وقت کے تھے، تو اللہ
 قدرت کے باقر سے قبض کر کے اس کی اپنے
 دے گا۔ اور اس کو روح قبض کر حضرت
 دو صحابی بائیں طرف یعنی جبرائیل کی تاملند
 قیامت اس کا نوسہ ہو دیں گی۔ اور اس
 مردوں کی طرف دیکھتے ہی دیکھتے
 (آقا برصق آتدو)

جیسے (از صحت گذرشتہ)

مگر اس دعا کو پڑھنے والا ہے۔ اور اس دعا کی تشریح

کے کیا یا تم صلی اللہ علیہ وسلم

پر پڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو

دوزخ میں نہیں بلائے گا۔

مگر اس کا پڑھنے والا ساتویں

استفادے کے ایک میں جاوے

نہ چلے۔ اور پانچ سو زق نہ

جاوے۔ اور تکرار اور

يَا حَلِيمُ يَا اللَّهُ	یَا عَظِيمُ يَا اللَّهُ
اے بردبار اے اللہ	اے بڑے اے اللہ
يَا مُقَدِّرُ يَا اللَّهُ	يَا غَفُورُ يَا اللَّهُ
اے تدبیر دانے اے اللہ	اے بخشنے والے اے اللہ
يَا غَفَّارُ يَا اللَّهُ	يَا رَفِيعُ يَا اللَّهُ
اے بخشش دانے اے اللہ	اے بلند کرنے والے اے اللہ
يَا شَكُورُ يَا اللَّهُ	يَا سَمِيعُ يَا اللَّهُ
اے شکر گزاروں کے قدردان اے اللہ	اے سنے والے اے اللہ
يَا أَوَّلُ يَا اللَّهُ	يَا آخِرُ يَا اللَّهُ
اے اول اے اللہ	اے آخر اے اللہ
يَا ظَاهِرُ يَا اللَّهُ	يَا بَاطِنُ يَا اللَّهُ
اے ظاہر اے اللہ	اے باطن اے اللہ
يَا مَالِكُ يَا اللَّهُ	يَا قَدَّوْسُ يَا اللَّهُ
اے بادشاہ اے اللہ	اے پاک اے اللہ
يَا سَلَامُ يَا اللَّهُ	يَا مُؤْمِنُ يَا اللَّهُ
اے سلامتی والے اے اللہ	اے امن دینے والے اے اللہ
يَا مُؤَيَّمِنُ يَا اللَّهُ	يَا جَبَّارُ يَا اللَّهُ
اے ٹھکانے والے اے اللہ	اے زبردست اے اللہ
يَا مُتَكَبِّرُ يَا اللَّهُ	يَا خَالِقُ يَا اللَّهُ
اے بڑائی والے اے اللہ	اے پیدا کرنے والے اے اللہ

اور پانچ سو زق نہ جاوے۔ اور تکرار اور کتنے نہیں لگے۔ اور صواب لکھا نہیں لگے۔ اور صواب نہیں چلے اور صواب لکھنے والے کی زبان میں ہو جاوے۔ اور کسی کا ظلم اور دشمنی میں چلے



اس کے استاذ بہت ہیں۔ مگر مقرر کے کا ہے۔ واللہ اعلم

یا جلیل یا اللہ یا قویب یا اللہ یا عجیب یا اللہ الخ

يَا بَارِئُ يَا اللَّهُ يَا مُصَوِّرُ يَا اللَّهُ

اے پیدا کرنے والے اے اللہ اے صورت بنانے والے اے اللہ

يَا رَازِقُ يَا اللَّهُ يَا حَيُّ يَا اللَّهُ

اے رزق دینے والے اے اللہ اے زندہ اے اللہ!

يَا قَيُّوْمُ يَا اللَّهُ يَا قَابِضُ يَا اللَّهُ

اے قائم رہنے والے اللہ! اے تنگ دینے والے اے اللہ

يَا بَاسِطُ يَا اللَّهُ يَا مُدِلُّ يَا اللَّهُ

اے فراخی دینے والے اے اللہ اے ذیل کرنے والے اے اللہ

يَا قَوِيُّ يَا اللَّهُ يَا شَهِيدُ يَا اللَّهُ

اے قوت والے اے اللہ اے گواہ اے اللہ

يَا مُعْطِيُّ يَا اللَّهُ يَا نَافِعُ يَا اللَّهُ

اے عطا کرنے والے اے اللہ اے نفع دینے والے اے اللہ

يَا رَافِعُ يَا اللَّهُ يَا وَكِيْلُ يَا اللَّهُ

اے بلند کرنے والے اے اللہ اے کارساز اے اللہ

يَا كَفِيْلُ يَا اللَّهُ يَا جَمِيْعُ يَا اللَّهُ

اے ضامن اے اللہ اے جمیع اے اللہ

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا اللَّهُ

اے عزت و اکرام والے اے اللہ

يَا ذَا الْكَمَالِ يَا اللَّهُ يَا سَيِّدُ

اے کمال والے اے اللہ اے سردار



يَا اللَّهُ يَا سَادَاتِ يَا اللَّهُ

اے اللہ اے سرداران اے اللہ

يَا بَاحِثُ يَا اللَّهُ يَا مُجِيبُ

اے اٹھانے والے اے اللہ اے دعا قبول کرنے والے

الدَّعَوَاتِ يَا اللَّهُ يَا مُنْزِلَ الْبَرَكَاتِ

کرنے والے اے اللہ اے برکتوں کو نازل کرنے والے

يَا اللَّهُ يَا كَافِيَ الْحَسَنَاتِ يَا اللَّهُ

واے اے اللہ اے نیکوں کو کافی کرنے والے اے اللہ

يَا مَحْوِ السَّيِّئَاتِ يَا اللَّهُ يَا رَافِعَ

اے مٹانے والے اے اللہ اے درجوں کو

الدَّرَجَاتِ يَا اللَّهُ يَا وَهَّابُ

بمندی کرنے والے اے اللہ اے بخشنے والے

يَا اللَّهُ يَا مُفْتِحَ الْبُيُوتِ يَا اللَّهُ

اے اللہ اے دروازوں کو کھولنے والے اے اللہ

يَا فَزْدُ يَا اللَّهُ يَا وَشْرُ يَا اللَّهُ

اے اچھے اے اللہ اے بیگانہ اے اللہ

يَا أَحَدُ يَا اللَّهُ يَا صَمَدُ يَا اللَّهُ

اے ایک اے اللہ اے بے نیاز اے اللہ

يَا وَاحِدُ يَا اللَّهُ يَا أَحْمَدُ يَا اللَّهُ

اے واحد اے اللہ اے بہت ترین والے اے اللہ



يَا مَحْمُودُ يَا اللَّهُ يَا صَادِقُ

اے ترین کئے ہوئے اے اللہ اے سچے

يَا اللَّهُ يَا عَلِيُّ يَا اللَّهُ يَا غَنِيُّ

اے اللہ اے بلند اے اللہ اے بے پردہ

يَا اللَّهُ يَا شَافِعُ يَا اللَّهُ

اے اللہ اے شفا دینے والے اے اللہ

يَا كَافِيُّ يَا اللَّهُ يَا مَعَارِفِي

اے کفایت کرنے والے اے اللہ اے سامان کرنے والے

يَا اللَّهُ يَا بَاقِيُّ يَا اللَّهُ

اے اللہ اے بقا والے اے اللہ

يَا هَادِيُّ يَا اللَّهُ يَا تَادِمُ

اے ہدایت دینے والے اے اللہ اے عجیب

يَا اللَّهُ يَا سَتَّارُ يَا اللَّهُ يَا فَتَّاحُ

اے اللہ اے پردہ پوش اے اللہ اے کھولنے والے

يَا اللَّهُ يَا رَبَّ السَّمَوَاتِ وَ

اے اللہ اے ہمہ درو گار آسمانوں اور

الْأَرْضِ وَذَوِ الْجَلَدِ وَالْأَكْرَامِ

زمین کے عزت اور جہاں والے

وَ أَنْ أَسْئَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ

جس بجز سے سوال کرتا ہوں کہ تو دوسری بھی ہمارے



سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ

سردار اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی

اِلْ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ سَلَّمْتَ

آل پر جیسے تو نے درود بھیجا اور سلام بھیجا

وَ بَارَكْتَ وَ رَحِمْتَ عَلَيَّ

اور برکت نازل کی اور رحمت نازل کی حضرت ابراہیمؑ

اِبْرَاهِيمَ وَ عَلَيَّ اِلْ اِبْرَاهِيمَ

پر اور ان کی آل پر جہانوں میں

فِي الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

ہے شک تو شریف کیا ہوا ہے بزرگ ساقی

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

رحمت کے اسے بلکہ رحم کرنے والے

۞ دُعَاۓ وِیْگَر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے

سُبْحٰنَ الْقَادِرِ الْقَاهِرِ

پاک ہے قدرت والا ہے قہر والا ہے

الْقَوِیُّ الْمَعَالِیُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

قوت والا ہے بلند ہے نہیں کوئی مبود مگر وہی



روایت کرتے ہیں صحابہ
الْحَارِثِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ
عَبْدُ الْقَادِرِ جَلِيلِيٌّ رَجُلٌ
شَفِيعٌ سِدِّيقٌ عَاكِفٌ
لَدُنَّ غَزَاةٍ قَبِيْلَةٍ
بِابِ بَغْدَادِ قَبِيْلَةٍ
كُوَيْتِيَّةٍ اَوَّلًا
لَدُنَّ نُوْرِيَّةٍ قَبِيْلَةٍ
بِابِ بَغْدَادِ قَبِيْلَةٍ
اَوَّلًا
بِابِ بَغْدَادِ قَبِيْلَةٍ
اَوَّلًا
بِابِ بَغْدَادِ قَبِيْلَةٍ
اَوَّلًا

اس کا جو دنیا میں
کے دن اس کا ہنگامہ
ہلکے بزرگوں کے
سبحان القادر القاهر
۱۴

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ

اے زندہ اے قائم رہنے والے اے بزرگ اور

وَالْاِكْرَامِ وَالْاَحْوَالِ وَلَا قُوَّةَ

مغلت داے! ٹیکل کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت

اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۝

نہیں مگر اللہ بلند مغلت داے کی توفیق سے

دُعَاۓ وِیْگِر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو ہر جان نہایت رحم والا ہے

يَا قَاضِيَ الدَّيُوْنِ وَمَنْ خَزَائِنِهٖ

اے قرضوں کو پورا کرنے والے اے وہ ذات کہ اس کے

بَيْنَ الْكٰفِ وَالْتَّوْنِ اِقْتَضِ

نوازنے کاف اور تون میں ہیں تو میرے قرضے کو پورا

دَيِّنِيْ وَدَيِّنْ كُلَّ مَدْيُوْنٍ ۝

کر دے اور اس مقررہ کے قرضے کو پورا کر دے



لے
ہدایت کرتے ہیں۔ کہ
جو کوئی اس دعا کو واسطے
ادا کرے قرض کے پورے
تو اللہ تعالیٰ قرض اس
کا خزانہ غیب سے ادا
کر دیوے۔

دعا ہے
یا قاضی الدیون و
من خزائنه... الخ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ نَامَةُ الْفَلَاحِ وَالْإِسْلَامِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وَعَائِلَةُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارَةَ

رَعَائِي اِبْرَاهِيمَ اَدَهْم

مَرْحَبًا بِيَوْمِ الْمَزِيدِ وَالصُّبْحِ

میں غیر مقدم کرتا ہوں خواہ کی زیادتی کے دن کا اور نئی صبح کا

الْجَدِيدِ وَالْكَاتِبِ وَالشَّهِيدِ

اور اعمال لکھنے والے فرشتوں کا اور اعمال کے گواہ فرشتوں کا (اسے

يَوْمَنَا هَذَا يَوْمَ عِيدِ اُكْتُبُ

اعمال لکھنے والے فرشتوں) جو یہ کہہ سکتا ہوں اس کو لکھ

لَنَا مَا نَقُولُ بِسْمِ اللّٰهِ الْحَمِيدِ

ہاؤ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو قابل تعریف

الْمَجِيدِ الرَّفِيعِ الْوَدُودِ الْفَعَالِ

ہے بزرگی اور عظمت والا ہے اپنی مخلوق میں جو کچھ

فِي خَلْقِهِ مَا يَرِيدُ اَصْبَحْتُ

چاہتا ہے کرتا ہے صبح کا وقت مجھ پر ایسی حالت

يَا لَلّٰهُ مُؤْمِنًا وَبِلِقَائِهِ مَصِدًّا

میں آیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ اس کے سامنے حاضر ہونے کی

وَرِيحِيَّتِهِ مُعْتَرِفًا وَمِنْ ذَنْبِي

تصدیق کرتا ہوں۔ اس کی تصدیق کا معترف ہوں اپنے گناہوں سے



مُسْتَغْفِرًا وَرَبُّوبِيَّةِ اللَّهِ خَاضِعًا

استغفار کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے آگے سر جھکانے

وَلِيسْوَى اللَّهِ فِي الْإِلَهِيَّةِ جَا حِدًا

ہوں۔ اور خداوندی صفت بجز اللہ کے کسی اور کے لئے نہیں مانتا ہوں

وَاللَّهُ فَتِيرًا وَعَلَى اللَّهِ

اور اللہ کا ہی حجاج ہوں اللہ ہی پر بھروسہ کئے ہوئے ہوں

مُتَوَكِّلًا وَإِلَى اللَّهِ مُنِيْبًا أَشْهَدُ

اور اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں میں اس امر پر اللہ اور

اللَّهُ وَأَشْهَدُ مَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيََاءَهُ

اس کے فرشتوں کو اور اس کے نبیوں کو اور اس کے

وَرُسُلَهُ وَحَمَلَهُ وَعَرْشِهِ وَمَنْ

رسولوں کو اور حاملین عرش کو اور ان تمام چیزوں کو جن کو اس نے

خَلَقَهُ وَمَنْ هُوَ خَالِقُهُ بِأَنَّهُ

پیدا کیا ہے اور جن کو وہ پیدا کرے گا۔ گواہ بنا کر سکتا ہوں

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا

کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اس کا کوئی

هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ

شریک نہیں اور ہے شک

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

یہ

وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ

اور جنت حق ہے اور جہنم حق

حَقٌّ وَالْحَوْضَ حَقٌّ وَالشَّفَاعَةَ

ہے اور حوض کوثر حق ہے اور شفاعت حق

حَقٌّ وَمُنْكَرًا وَنَكِيرًا حَقٌّ وَ

ہے اور منکر اور نیکر حق ہیں اور راسے

لِقَائِكَ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ آتِيَةً

اللہ تیرا وعدہ سچا ہے تیرے پاس حاضر ہونا سچا ہے اور بیشک

لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ

قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرے گا

مَنْ فِي الْقُبُورِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ

یہاں اسی عقیدے پر رہوں گا اور اسی

أَحْيَىٰ وَعَلَيْهِ أَمْوَاتٌ وَعَلَيْهِ

عقیدے میں مردوں کا اور اسی عقیدہ پر قیامت کو

أَبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَللَّهُمَّ

انشاء اللہ اٹھوں گا۔ اے اللہ تو

أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی



خَلَقْتَنِي وَ اَنَا عَبْدُكَ وَعَلَى

میرا خالق ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے بند

عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ

کا اور وعدہ کا جب تک ہو سکے گا پابند رہوں گا اے

اَعُوذُ بِكَ اَللّٰهُمَّ مَا صَنَعْتُ

اللہ! میں تیرے پناہ مانگتا ہوں ان تمام اعمال کے

وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ

برے سے نتاج سے جن کو میں کچلا ہوں اور شریر کے شر سے بھی پناہ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى قَدْ ظَلَمْتُ

مانگتا ہوں اے اللہ! میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو

نَفْسِيْ وَ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ فَاِنَّهٗ

میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے کیونکہ گناہوں کو

لَا يَغْفِرُ اِلَّا تُوْبٌ اِلَّا اَنْتَ

معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں اور اے

وَ اِهْدِنِيْ رَاْحِمٰنَ الرَّحْمٰنِ

رحمناق کی توفیق عطا فرما کیونکہ

فَاِنَّهٗ لَا يَهْدِيْ اِلَّا رَاْحِمٰنًا اِلَّا

اپنے اخلاق کی توفیق دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں اور

اَنْتَ وَ اَصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئٰتِهَا

برے اعمال کو مجھ سے دور کر دے



فَاِنَّكَ لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ

کیونکہ برے اعمال کو بجز سے دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہیں

لَتَبْلُغَنَّ لَكَ وَ سَعْدُكَ وَ الْخَيْرُ كُلُّهُ

تیری خدمت میں حاضر ہوں اور تمام اچھی چیزیں تیرے قبضہ میں ہیں

رَبِّدَايَاكَ اَنْتَا رَبُّكَ وَ اِلَيْكَ

میرا بھروسہ تیرے ہی اہم ہے اور میں

اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ

تیری ہی طرف متوجہ ہوں بخیر یہ ہے تیرے سے مغفرت

اٰمَنْتُ اَللّٰهُمَّ بِمَا اُرْسَلْتَ

کا طالب ہوں تیرے ہی سامنے توبہ کرتا ہوں اے اللہ! ان تمام رسولوں

مِنْ رَّسُوْلٍ وَ اٰمَنْتُ اَللّٰهُمَّ

کو سچا سمجھتا ہوں جن کو تو نے بھیجا ہے اور ان تمام کتابوں پر ایمان

بِمَا اَنْزَلْتَ مِنْ كِتَابٍ وَ

لاکھوں جن کو تو نے نازل کیا ہے اور

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

اللہ کی رحمت نازل ہو حضرت محمد صلی اللہ

اَلْاُمِّي وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ سَلَّمَ كَسَلِيْمًا

طیبہ وسلم پر جو نبی امی ہیں اور آپ کی آل پر اور ہزار ہزار

كَثِيْرًا حَاثَمَ كَلَامِي وَ مَقَاتِلِي

سلام ہوں یہی میرے لہام کا منہ ہے اور یہ میرا سبدا ہے



وَعَلَىٰ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ

اور اس کے تمام نبیوں پر اور تمام رسولوں پر

أَجْمَعِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

آمین ! یا رب العالمین

اللَّهُمَّ أوردنا حوض محمد

اے اللہ! ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر پہنچا

وَأَسْقِنَا بِكَ سَهْمًا مَشْرَبًا وَ

اور انہیں کا جام سیراب کرنے والا حلق سے آسانی اتر جانے والا

سَائِرًا فَهَنِيًّا لَوْ تَطْمَأَنَّنَا بَعْدَهُ

خوشگوار پلا دے۔ کہ اس کے پینے کے بعد پھر ہم پیاسے ہی نہ ہوں

أَبَدًا وَأَحْشَرْنَا فِي زَمْرَتِهِ

اور قیامت کے دن انہیں کی جماعت میں ہم کو اٹھا۔ کہ

عَيْدُ خَزَائِيَا وَلَا نَاكِشِينَ

ذہم رسوا ہوں اور نہ لحد شکن

لِلْعَهْدِ وَلَا مُرْتَابِينَ وَلَا

اور نہ شک کرنے والے اور نہ

مَفْتُونِينَ وَلَا مَعْضُوبٍ عَلَيْنَا

فتنہ میں پڑے ہوئے اور نہ تیرے غضب میں گرفتار

وَلَا ضَالِّينَ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي

اور نہ گمراہ اے اللہ! مجھ کو دنیا کے فتنوں



مِنْ فِتْنِ الدُّنْيَا وَ وَفَّقْنِي

سے محفوظ رکھ اور ان کاموں کی توفیق عطا فرما

لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى وَ أَسْئَلُكَ

دے، جو بجز کو پسند ہوں اور تیرے سے راضی ہو اور میری بوری اصلاح

لِي شَأْنِي كَلِمَةً وَ تَبَيَّنِي بِالْقَوْلِ

مزاد سے اور کلمہ توحید پر مجھ کو دینا اور

الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

آجسرت میں ثابت قدم رکھ اور اگر

وَفِي الْآخِرَةِ وَلَا تُضِلَّنِي وَ

میں نے اپنی جان پر تسلیم کیا ہو تو تو مجھ

إِنْ كُنْتُ ظَالِمًا سُبْحَانَكَ

کو گمراہ نہ کر اے بلند پایہ اے

يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا بَارِي

عظمت والے اے خالق اے رب اے عزیز

يَا رَحِيمُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ

تو تمام برائیوں اور جلیوں سے پاک ہے

سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ

جس کے پاک آسمان کا ایک ایک کونہ بیان

يَا كُنَّا فِيهَا سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ

کرتا ہے وہ ذات پاک ہے جس کے پاک



لَهُ الْجِبَالُ بِأَصْدَآئِهَا وَسُبْحَانَ

بہاڑوں کی آوازیں بیان کرتی ہیں وہ ذات پاک ہے

مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ الْبِحَارُ بِأَمْوَاجِهَا

جس کی پاک سمندروں کی موجیں بیان کرتی ہیں۔

وَسُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ

پاک ہے وہ ذات جس کی پاک پھلیاں اپنی

الْحَيَاتَانِ رِبْلَعَاتِهَا وَسُبْحَانَ

مختلف زبانوں میں بیان کرتی ہیں پاک ہے وہ ذات

مَنْ سَبَّحَتْ بِهِ التُّجُومُ فِي

جس کی پاک آسمان کے ستارے اپنے اپنے

السَّمَاءِ بِأَبْرَاجِهَا وَسُبْحَانَ

برجوں میں بیان کرتے ہیں وہ ذات پاک ہے

مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ الشَّجَرُ بِأُصُولِهَا

جس کی پاک درختوں کی جڑیں اور ان کے پھل

وَرِثَارِهَا وَسُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ

چھپان کرتے ہیں وہ ذات پاک ہے جس کی پاک ساتوں

لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ

آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو پھر ان کے

السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ

درمیان میں اور اوپر ہے بیان کرتی ہیں۔



سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ

وہ ذات پاک ہے جس کی پاکی اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز بیان

مَخْلُوقَاتِهِ تَبَارَكَتْ وَتَعَالَيْتْ

کہتی ہے اے اللہ تو بابرکت ہے اور تو بلند پایہ ہے

سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ يَا حَسْبُ يَوْمٍ

تو تمام عیبوں سے پاک ہے تو تمام عیبوں سے پاک ہے اے حق اے

يَا عَلِيمٌ يَا حَلِيمٌ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ

علاؤم اے علیم اے حلیم تو تمام عیبوں سے پاک ہے تیرے

إِلَّا أَنْتَ وَحْدُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو ہی

تُحْيِي وَتُمِيتُ وَأَنْتَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

زندہ کرتا ہے اور تو ہی مارتا ہے اور تو حسی اور نہ مرنے والا ہے

بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ

اچھی چیزیں سب تیرے ہی قبضہ میں ہیں اور تو تمام چیزوں

شَيْءٍ قَدِيرٌ ه

پر قادر ہے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَاقِيَ إِلَّا بِاللهِ

يَا قَبِيصًا



دُعَائِي سُرِّيَانِي

بادشاہ نورمان ہو جاوے، تو
ایک نزار بار پڑھے، تو
علا پڑھے
دولت کے لئے عہد ناز
طلب برکت، رفعت اور
علا

قیلہ اسناد و فضائل
از صورت گذشتہ

اس دعا کے پال کو پڑھو
کہ الرضیٰ میں شریک
ہو۔ قریب قریب، تلواری
کے لئے دیزہ سے ہونے



رہے۔ اور زخمی نہ ہو
دینق کی تنگی جو یا
توت کی طلب اس
دعا سے پاک سے منظور

دعا سے پاک سے منظور
بد آرزے، خشک سالی
میں یہ دعا پڑھے، اور نعمت کی گھنٹیں
چھا جائیں اور اگر مینہ یا آندھری طوفان کی گھنٹیں
نہ آئے۔ اس دعا کا اصل پارتھ کے حضور مندر ذیل ہے۔

اَنَا الْمَلِكُ الْمُهَيَّمِنُ جَلَّ قَدْرِي
میں بادشاہ ہوں نگہبان ہوں میری عزت بہت زیادہ ہے
عَظِيمُ الْمَلِكِ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي
ملک کا مالک ہوں بڑے ملک والا ہوں تو مجھے ڈھونڈ لے پائے گا
اَنَا الْمَعْبُودُ لَا تَعْبُدُ سِوَايَ
میں معبود ہوں میرے علاوہ عبادت نہ کر
اَنَا الْجَبَّارُ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي
میں زبردست ہوں تو مجھے ڈھونڈ لے پائے گا
اَنَا لِلْعَبْدِ اَرْحَمُ مِنْ اَخِيهِ
میں بندے پر بہت رحم کرتا ہوں اس کے بھائی
وَمِنْ اَبُوِيهِ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي
اور والدین سے تو مجھے ڈھونڈ لے پائے گا
تَجِدْنِي رَفِيُّ سِوَادِ اللَّيْلِ عِبْدِي
دات کی تاریکی میں میرا بندہ مجھے
تَرِيًّا مِنْكَ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي
اپنے قریب پاتا ہے تو مجھے ڈھونڈ لے پائے گا

انسان کی دعا مقبول ہو۔ اور عام کام خیر انجام پائیں۔
حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے مسکرا
علا وہ دیگر لوگوں کو سمجھ دینے کے لئے اس کا ذکر کیا۔ اور ان کے
کر میں اس دعا کو اپنے اہل بیت کو سکھانے اور ان کے
انا الموجود فاطلبنی تجدنی فان تطلب سألني لتجدني

تمام احکامات پر دلانے کے لئے تین ہزار تہذیب ہے۔

صالحہ جو کہ کسی چیز کے حق تعالیٰ کی سجاوٹ اس پر مہربان ہو تو اسے زائر مبارک ہے۔

لَا تَجِدُنِي فِي سُجُودِكَ حِينَ تَدْعُو
تو مجھے اپنے سجدوں میں پائے گا جب کہ قہام کرے
وَحِينَ تَقُومُ فَاطْلُبْنِي تَجِدُنِي
اور دعا کرے تو مجھے ڈھونڈے پائے گا۔
لَا تَجِدُنِي رَاحِمًا بَرًّا أَمْ وُفَا
تو مجھے پائے گا نیک دم کرنے والا ساری
بِكُلِّ الْخَلْقِ فَاطْلُبْنِي تَجِدُنِي
مخلوق پر تو مجھے ڈھونڈے پائے گا
لَا تَجِدُنِي وَاحِدًا فَرْدًا عَظِيمًا
تو مجھے پائے گا ایک بڑا بیگانہ
كَثِيرٍ الْخَلْقِ فَاطْلُبْنِي تَجِدُنِي
بہت پیدا کرنے والا تو مجھے ڈھونڈے پائے گا
لَا تَجِدُنِي مُسْتَعَاثًا لِي مُغِيثًا
تو مجھے مستیاد رس پائے گا میں
أَنَا الْقَهَّارُ فَاطْلُبْنِي تَجِدُنِي
قہر والا ہوں تو مجھے ڈھونڈے پائے گا
هُوَ أَرْحَمُ مِنْ عِبَادِي مَنْ عَصَانِي
اور میں بہت رحم کرتا ہوں اس بندے پر جو اپنی جہالت کی وجہ سے
بِجَهْلٍ مِنْهُ فَاطْلُبْنِي تَجِدُنِي
میرے نا فرمانی کرتا ہے تو مجھے ڈھونڈے پائے گا

صالحہ
تنگ دل سے دور
کرنے کے لئے
یعنی زائر مبارک
ہوئے۔



صالحہ
اللہ تعالیٰ کی
زیادہ سے شرف
پونے کے لئے
بہت زیادہ پڑھے

صالحہ
دو دن اس لئے کہ
یعنی زائر مبارک
ہوئے۔

مرا
خالص کی اس مخلوق سے
عزیزانہ سے اس
نے بزرگ باپ پرست

۲
میرے نام و اندوہ سے غلامی
پاسنے کے لئے چلا
بزرگ باپ پرست

سُبْحٰنَكَ رَبِّيْٓ اِنَّنِيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ
 ۱ تو میرے سوا ساری مخلوق پر کس وسعت داسے کو نہیں پائیگا
 اَنَا الْمَذْكُوْرُ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ
 ۲ میں مذکور ہوں تو مجھے ڈھونڈے پاسے گا
 اِذَا الْهٰمِقٰنَ نَادٰ اٰرِفٌ كَظِيْمًا
 ۳ جب غمزدہ آدمی مجھے پکارے تو میں کہتا ہوں
 اَقُلُّ لَبِيْكَ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ
 ۴ کہ میں حاضر ہوں تو مجھے ڈھونڈے پاسے گا
 اِذَا الْمُبْضَطُّ قَالَ اَلَا تَرَ اٰرِفٌ
 ۵ جب کوئی بے قرار کہے کہ تو مجھے دیکھتا نہیں
 نَظَرْتُ اِلَيْهِ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ
 ۶ میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے ڈھونڈے پاسے گا
 اِذَا عَبْدًا مِّنْ عَصٰرِيْ لَّمْ يَجِدْنِيْ
 ۷ جب کوئی بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں
 سَرِيْعٌ الْاَخْذُ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ
 ۸ اسے جلدی سے نہیں پکڑتا تو مجھے ڈھونڈے پاسے گا
 اَلَمْ تَعْرِفْ مَنْ يَّعْبُدُ الْخٰلِقَ غَيْرِيْ
 ۹ کیا تو پہچانتا ہے کہ میرے سوا مخلوق کی تکلیفوں سے
 مِنَ الْكُرْبٰتِ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ
 ۱۰ زیادہ درسی کون کرتا ہے تو مجھے ڈھونڈے پاسے گا

۳
میرے نام و اندوہ کے لئے
دفعیہ کے لئے
بہت زیادہ مرتبہ



۴
میں ہوں کہ بخشش
کے لئے بہت
زیادہ مرتبہ

۵
سازگار جاننے
کے لئے آئیں مرتبہ
بہت

مگر وہ اپنے عیب کے دن سے عیب گزار رہتا ہے
مگر اگر محنت اور سزا کے درمیان غافلت پیدا ہو جائے تو وہ روز کیسے گزارے گا

أَتَعْرِفُ مَنْقِدًا عَيْرِي سَرِيعًا

کیا تو پہانتا ہے میرے سوا کسی کو ہلاکت

مِنَ الْهَلَكَاتِ فَاطْلُبْنِي جِدُّنِي

سے بھاننے والے کو تو مجھے ڈھونڈنے پائے گا

أَتَعْرِفُ مَنْ يَقْتُلُ لِّشَيْءٍ عَيْرِي

کیا تو پہانتا ہے میرے سوا اس شخص کو جو کسی چیز کو

يَكُنْ فِيكَوْنُ فَاطْلُبْنِي جِدُّنِي

کھے ہو جائے تو مجھے ڈھونڈنے پائے گا

أَتَعْرِفُ سَاتِرًا لِلْعَيْبِ عَيْرِي

کیا تو پہانتا ہے میرے سوا کسی عیب کے پردہ پوش کو

أَنَا السَّاتِرُ فَاطْلُبْنِي جِدُّنِي

ہیں پردہ پوشی ہوں تو مجھے ڈھونڈنے پائے گا

مَقَانٌ هُوَ تَابٌ تَبْتُ عَلَيْهِ عِنْدِي

پھر اگر وہ رجوع کرے تو میں اس کے پاس رجوع کرتا ہوں

أَنَا التَّوَابُ فَاطْلُبْنِي جِدُّنِي

میں توبہ قبول کرتا ہوں تو مجھے ڈھونڈنے پائے گا

هُوَ مِنْ مِثْلِي وَ أَيْنَ يَكُونُ مِثْلِي

جسلا میری مثل کون ہے اور کون ہو سکتا ہے پس نہیں

وَلَيْسَ يَكُونُ فَاطْلُبْنِي جِدُّنِي

ہو سکتا تو مجھے ڈھونڈنے پائے گا

مگر اگر سہ رات کیک گزارا ہے تو روزی عیب سے پاوے



مگر اگر عیب کی طلب ہو تو عیب کے دن اس کو سزا دے دیتے ہیں

مگر اس کے سوا اور کوئی طاہرات برلاستہ

مال کی زیادتی سے
بے پروا
بے پروا
بے پروا

مال کی زیادتی سے
بے پروا
بے پروا
بے پروا

بے پروا
بے پروا
بے پروا
بے پروا

هَلَمَّ إِلَى لَا تَقْصِدُ سِوَايَ
تو میری طرف آ جا میرے سوا ارادہ نہ کر کہے گا
أَنَا الْمَثَانُ فَأَطْلُبُنِي تَجِدُنِي
میں احسان کرنے والا ہوں تو ڈھونڈے مجھے پائے گا
يَا تَذَكُرُ لَيْلَةً نَادَيْتَ سِرًّا
کیا تو مجھے رات کو یاد کرتا ہے پوچھتا ہے میں بلاتا ہے
أَلَمْ أَسْمَعْكَ فَأَطْلُبُنِي تَجِدُنِي
کیا میں تجھے سنتا نہیں ہوں تو مجھے ڈھونڈے پائے گا
فَلَا يُنْجِيكَ يَا عَبْدِي سِوَايَ
اے میرے بندے تجھے دوزخ سے میرے سوا کوئی نجات
مِنَ النَّيِّرَانِ فَأَطْلُبُنِي تَجِدُنِي
نہیں دے سکتا تو مجھے ڈھونڈے پائے گا
أَهْدِي فِي الْخَلْقِ مَنْ يُعْطَى جَزِيلًا
کیا مخلوق میں میرے سوا بڑی بخشش کوئی کر سکتا
سِوَايَ لَيْسَ فَأَطْلُبُنِي تَجِدُنِي
ہے؟ نہیں تو مجھے ڈھونڈے پائے گا
أَتَعْرِفُ عَافِرَ اللَّذْنِ عَيْرِي
کیا میرے سوا گناہ کو بخشنے والے کسی کو پہچانتا ہے؟
أَنَا الْقَهَّارُ فَأَطْلُبُنِي تَجِدُنِي
میں قہر والا ہوں تو مجھے ڈھونڈے پائے گا



بے پروا
بے پروا
بے پروا
بے پروا

وَأَكْرَمُ مَنْ يَتُوبُ إِلَيَّ خَوْفًا

میں بہت عزت کرتا ہوں اس شخص کی جو خوف کی وجہ سے

إِلَيَّ أَلَا كَرَامًا فَاطْلُبْنِي تَجِدُنِي

میرے طرف توبہ کرے تو مجھے ڈھونڈے پائے گا

وَأَكْرَمُ مَنْ أُرِيدُ بِلَا حِسَابٍ

میں عزت کرتا ہوں اور اس شخص کو بے حساب دیتا ہوں

أَنَا التَّوَهَّابُ فَاطْلُبْنِي تَجِدُنِي

میں بخشنے والا ہوں تو مجھے ڈھونڈے پائے گا:

مَسَاغِفْرٌ لِلْعِبَادِ وَلَا أَبَا رِيٍّ

میں بندوں کو بخش دوں گا اور میں قیامت کے عذاب سے

عَذَابُ الْحَشْرِ فَاطْلُبْنِي تَجِدُنِي

نہیں ڈراؤں گا تو مجھے ڈھونڈے پائے گا

مَتَعَزَّزْنِي وَلَا تَرْقُطْ مِثْلِي

تو مجھے ہمارا جان اور میرے مثل نہ دیکھ

وَلَسْتُ تَرِيهِ فَاطْلُبْنِي تَجِدُنِي

اور تو دیکھ بھی نہیں سکتا تو مجھے ڈھونڈے پائے گا

مِثْلِي الْأَلَاءِ وَالنُّعْمَاءِ عِبْدِي

میرے بندے! میرے پاس دنیا و آخرت کی نعمتیں ہیں

إِلَيَّ الْخَيْرَاتِ فَاطْلُبْنِي تَجِدُنِي

میرے پاس خیرات ہے تو مجھے ڈھونڈے پائے گا:

مس
اگر کوئی غیر کے وقت
اکیس مرتبہ روزانہ
پڑھے تو نگہ فرمائے



مس
اگر کوئی غیر کے وقت
سومرتبہ پڑھے
پچاس بار روزانہ
حاصل ہو

مس
اگر ایسا ہی دہ
پڑھے اپنے واسے
حالات سے باخبر ہو جائے

الذی لیس یا پر ہے
آنے والے حالات سے
باخبر ہو جائے

یاد دہانی تکلیف میں سات
سورت پر ہے۔ یہ جاری و
تکلیف دور ہو



الذی لیس یا پر ہے
آنے والے حالات سے
باخبر ہو جائے

یاد دہانی تکلیف میں سات
سورت پر ہے۔ یہ جاری و
تکلیف دور ہو

رَبِّیَ الدُّنْیَا وَمَا فِیْهَا جَبِیْعًا

میرے پاس دنیا ہے اور دنیا کا ہر سامان میرا

رَبِّیَ الْمَلَكُوتِ فَأُطَلِّبُنِیْ بِحَدِّیْ

یہی ملک ہے تو مجھے ڈھونڈنے پالے گا

مَا تَعْرِفُ مِنْ لَهٗ اِسْمٌ كَمَا سَمِیْتُ

کیا تو پہچانتا ہے اس شخص کو جس کا نام میرے نام کی مثل ہو

اَنَا الرَّحْمٰنُ فَأُطَلِّبُنِیْ بِحَدِّیْ

میں رحمان ہوں تو مجھے ڈھونڈنے پالے گا

مَا اَنَا اللهُ الَّذِیْ لَا شَیْءٌ مِّثْلِیْ

میں اللہ ہوں کوئی چیز میری مثل نہیں میں

اَنَا الدَّیَّانُ فَأُطَلِّبُنِیْ بِحَدِّیْ

قرض چاہنے والا ہوں تو مجھے ڈھونڈنے پالے گا

اَنَا الْمَلِکُ الْمَلُوکِ وَکُلِّ مَمْلُکٍ

میں ملکوں کا بادشاہ ہوں ہر ملک پر

رَبِّیَ الْمِیْرَاتِ فَأُطَلِّبُنِیْ بِحَدِّیْ

میرا قبضہ ہے تو مجھے ڈھونڈنے پالے گا

وَمَا اَفْتِی الدُّهُورُ وَقَبْلَ قَبْلِ

اور مرنے سے پہلے اور اس کے بعد اہل زمانہ کو

وَبَعْدَ الْمَوْتِ فَأُطَلِّبُنِیْ بِحَدِّیْ

کون فنا کر سکتا ہے تو مجھے ڈھونڈنے پالے گا

سچی کو اپنے آپ پر ہے
میرا نام کہنے کے لئے
اپنے آپ پر ایک نزار
بار پڑھے

صلوات اور مرد کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لئے ہزار بار پڑھے۔

صلوات اور مرد کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لئے تیس بار پڑھے۔

أَنَا الْوَهَّابُ يَا عَبْدِي سَرِيحًا

اے میرے بندے میں جلدی بچھنے والا ہوں

وَأَوْفِ الْعَهْدَ فَإِذَا طَلَبْتَنِي تَجِدُنِي

اور عہد کو پورا کرتا ہوں تو مجھے ڈھونڈے پائے گا

مَلَأْنَا الْفَرَادُ الْمُدَائِرُ فَنُوقَ عَرْشِ

میں اکھیلا ہوں عرش کے اوپر بلا تکلف

بِلَا التَّكْلِيفِ فَإِذَا طَلَبْتَنِي تَجِدُنِي

تمہیں کرتا ہوں تو مجھے ڈھونڈے پائے گا

مَّا نَا الرَّبُّ الَّذِي لَا ظِلْمَ عِنْدِي

میں رب ہوں میرے پاس ظلم نہیں ہے

وَلَسْتُ أَجُورُ فَإِذَا طَلَبْتَنِي تَجِدُنِي

اور میں ظلم نہیں کرتا تو مجھے ڈھونڈے پائے گا

فَلَمَّا قَرَّبْتُكَ لِقُرْبِي وَبَعْدًا

بے شک میں تیرے نہ قریب ہوں اور نہ بےید ہوں

كَقُرْبِ الْقَوْسِ فَإِذَا طَلَبْتَنِي تَجِدُنِي

کمان سے زیادہ قریب ہوں تو مجھے ڈھونڈے پائے گا

مِنْ أَحْسَنِ كُلِّ وَقْتٍ بِوَجْهِ أَحْسَنِ

میں بہت سے بہترین وقتوں میں بہترین سے پوری مہربانی سے

مِنَ الْأُلُطَافِ فَإِذَا طَلَبْتَنِي تَجِدُنِي

پسند کرتا ہوں تو مجھے ڈھونڈے پائے گا

تعمیر
بارش اور خوف
سے امن میں رہنے
کے لئے اسے ساٹھ
بار پڑھے۔



تعمیر
تعمیر کے لئے
تعمیر میں ساٹھ بار
پڑھنے سے ایسا
ہو جائے

ملا روزی کی کتابت
کے مضامین سو باب پڑھ

مَخْلَقَتٌ مُحَمَّدًا نُورًا قَدِيمًا

میں نے حضرت محمدؐ کو نورِ قدیم بنا دیا ہے

لَهُ إِشْرَاهُ فَأَطْلُبْ بِنِي تَجْدُرْفِي

آپ کے لئے خوشخبری ہے تو مجھے ڈھونڈ لے پائے گا

وَكَيْشْفَعُ بِأَلْخَلَائِقِ يَوْمَ حَشْرِ

آپ کی شفاعت کے دن ساری مخلوق کی شفاعت کریں گے اور

وَكَيْشْفَعُ فِيهِ فَأَطْلُبْ بِنِي تَجْدُرْفِي

آپ کی شفاعت مقبول ہوگی تو مجھے ڈھونڈ لے پائے گا



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقْوَمَ الْإِسْلَامِ

بِالْحَيِّ وَالْقَيُّومِ



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَسَلِّمْ عَلَى كَبِيرِ كَبِيرِ آبَاءِ آبَاءِ

قَصِيدَةُ غَوْثِيَّةٍ

وصیل کسکوت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَقَانِي الْحُبَّ كَأَسَاتِ الْوَصَالِ

فَقُلْتُ لِحُمْرَتِي نَحْوِي تَعَالِ

جو آئے او سچن دی وصل ولے
جو میں دل آ قدم جلدی اٹھا کے

پیلے عشق نے مینوں پیالے،
کہیا اس خمرنوں پھر میں بلا کے

سَعَتْ وَصَشْتُ لِنَحْوِي فِي كُؤُسِ

فَصَبْتُ بِسُكْرَتِي بَيْنَ الْمَوَالِي

ہزاراں جام اندر تیزیاں نال
مگر دل تل کے یاراں نال پیتا

میرے دل آگیا اوہ خمر فی الحال
اوہنتوں میں مست ہو کے نوش کیتا

فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لُسُوءًا

نِجَالِي وَإِذْ خُلُوهَا أَنْتُمْ رَجَالٌ

میری طرف سے سبھی ریل مل سدھاد
ہوؤ تا بع میرے سارے میرے مال

کہیا میں فیہ قطباں توں جو آؤ
تیس سارے ہوؤ داحس میرے مال

وَهُمْ وَشَرِبُوا أَنْتُمْ حِنْدِي

فَسَاقِي الْقَوْمِ بِالْوَأْفَى مَلَالٌ

تیس سب میرے لشکر پہ اصل تھیں
وصل نے عشق تھیں میرے مالے

کر و ہمت پوکا سے فضل تھیں
پئے ساتی نے پُر کر کے پیالے

شَرِبْتُمْ فَضَلْتِي مِنْ بَعْدِ سُكْرِي

وَلَا نِلْتُمْ عَلَوِي وَالصَّالِي

تیس ہوئے میرے جو ٹھے تھیں بہوش
ملی تا ہیں تسالوں ادہ کالی

ہو یا میں مست جاں اس خمر لوں نوش
مگر درجہ میرا ہے بہرت عالی

مَقَامُكُمْ الْعُلَّاجِبَعَاءُ وَلَكِنْ

مَقَامِي فَوْقَكُمْ مَا زَالَ عَالٍ

مقام قرب اندر شان حاصل
میری منزل ہمیشہ دُور جانوں

تساؤے واسطے عالی ہے منزل
مگر درجہ میرا اعلیٰ پچھانوں

أَنَا فِي حَضْرَتِ التَّقْرِيبِ حَدِي

يُصْرَفْتِي وَحَسْبِي ذُو الْجَلَالِ

حضورِ قرب مینوں خاص ہو یا
اوہ کافی ہے مینوں صاحب زور

سچی درگاہ دے اندر میں کھلویا
مینوں کرد ہے رب کچھ ہو رد اہور

أَنَا الْبَارِزِيُّ أَشْمَبُ كُلِّ شَيْخٍ

وَمَنْ ذَا فِي الرِّجَالِ أُعْطِيَ مِثَالِ

میری اُچی ہے اڈاری پچھانوں
میری مانند خاص الخاص رحمت

مینوں ہر شیخ دارن بار حبانوں
ہوئی کیڑے ولی نول کر امت

كَسَانِي خَلْعَةً بِطَرِزِ عَزْمٍ

وَتَوَجَّعْتِي بِتَيِّبَانِ الْكِبَالِ

ادولو العزمی دی جس پرورش پائی
نہ کیتس غیر داحتاج مینوں

خدا مینوں عجب پوشاک لائی
کمالیت دادتس تاج مینوں

وَاطَّلَعْتِي عَلَى سِرِّ قَدِيرٍ

وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالِي

قدیمی بھیدا واقف بتایا
میں جو کچھ منگیا اللہ تمہیں پایا

خدا مینوں عجب درجہ دکھایا
میرے گل ہار عزت دا پوایا

وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا

فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ

سبھی قطباں اتے مختار کیتس
میری عزت بنائی آپ باری

مینوں ولیاندا خود مختار کیتس
میرا ہر وقتے ہن حکم جاری

فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بَحَارِ

لَصَارَ الْكُلُّ عَوْرًا فِي الزَّوَالِ

نہ جھین جھال میری اسے کمال
زمین و چہ نگرے نابود ہوئے

میں اپنا بھید جے ندی نئے ڈال
اتہا تدا آپ ناموجود ہووے

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالِ

لَدَقَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرَّمَالِ

پہاڑاں پر کسے ویلے کدائیں
میرے مولادی قدرت کاملہ نال

اگر ڈال میں اپنے بھید تائیں
ہوون سب ریزہ ریزہ فی الحال

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتِ

لَتَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمُؤَلَّى تَعَالِ

اگر چہ اس موٹے نوں ہوں سال
میرے مولادی قدرت کاملہ نال

میں اپنا بھید جے مردیتے ڈال
ہوئے زندہ اٹھے ادھ مردہ فی الحال

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَابِ

لَخَدَّتْ وَأَلْطَفَتْ مِنْ سِرِّحَالِ

کدی ڈالاں بچھے آتش سر اسر
ہوے تیزی تکبر اوسدا سب چوہ

اگر میں بھید اپنا آتش اوپر
ہوے گرمی تمامی اوسدی دور

وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دَهْوَرٌ

تَبْرٌ وَتَنْقِضِي إِلَّا آتَالِي

ہمیشہ گزر دے اوپر جہانے،
پچھوں دُنیا ندے اندر جاٹھن خالص

جیہڑے اون مہینے تے زمانے
سبھے ہین آوندے اول میری اس

وَتُخْبِرُنِي بِسَايَاتِي وَيَجْرِي

وَتَعْلَمُنِي فَأَقْصِرُ عَنْ جِدَالِ

ہوے چونیک بد دنیا تے جاری
نہ کر توں بختے جھکٹے میر نیال

میتوں دُنیا ندی دلون خبر ساری
میتوں دسن تمامی حال تے چال

مُرِيدِي هِمُّ وَطَبُّ وَاشْطَحُ وَعَعِيٌّ

وَافْعَلُ مَا تَشَاءُ قَالَ لِاسْمِ عَالٍ

مرید! میرا ہمت عیاں کر!
اوہو کچھ کر جو چاہے دل تیرا خاص

خوشی تے بے نیازی ہے تیرے گھر
ہے میرا نام عالی ہے تیرے پاس

مُرِيدِي لَا تَخَفُ اللَّهُ مَرِيٌّ

عَطَائِي رِقْعَةٌ نِلْتُ الْمُنَالِ

مرید! میرا کچھ خوف نہ کر!
میلوں بخشش خدا تھیں عام ہوئی

خدا میرا مربی ہے سراسر
بلندی قدر دی انعام ہوئی

طُبُو لِي فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَتٌّ

وَسَاوُسُ السَّعَادَةِ قَدْ بَدَأَ لِي

زمین آسمان تے میرے تقارے
لقیب اقبال دے میںوں ملے ہُن

وہے جاں کرم کیتا کرن ہاے
جو پوشنا پوش کر دے پیش چلن

بِلَادِ اللَّهِ مُلْكِي تَحْتَ حُكْمِي

وَوَقْتِي قَبْلَ قَلْبِي قَدْ صَفَا

جو میرے حکم آگے زیر ہوئے
ہو یا پھر دل میرا پھول نکلتا

خدا کے شہر میرے ملک ہوئے
ہو یا ہے وقت میرا صاف اول

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا

كَخُرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ التَّصَالِ

جو ہفت اقلیم کے اندر لپارے
جیوں اک اور ہیوں دادانہ دکھائے

خدا کے شہر جتنے ہیں سارے
سب سے مٹیوں اکٹھے نظر آوے

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى سِرْتُ قَطْبًا

وَقِلْتُ السُّعْدَ مَنْ مَوْلَى الْمَوَالِي

جو تا ہیں ہو گیا قطباں ولایت
میںوں مولا الموالی تھیں سعادت

علم و ادراں میں کتنا نہایت
ہوئی ہمیشہ حاصل با ارادت

رَجَالِي فِي هَوَاجِرِهِمْ صِيَامٌ

وَفِي ظُلْمِ اللَّيَالِي كَاللَّيْلِ

جو گرمی سخت میں اندر صائم
جویں موتی عجب مرغوب چمکن

میرے شاگرد دلچسپ ہیں قائم
اندھیری رات اندر خوب چمکن

وَكُلُّ وَاوَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَوَاوَلِيٍّ

عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرُ الْكَمَالِ

جو ہے رہبر ہے پچھے بے الم ہے
میں اوسدی تابع ہاں او ہے نہر

جہاں میں ہر ولی صاحب قدم ہے
قدم میرا ہے حضرت کی قدم پر

مُرِيدٌ لَا تَخَفُ وَاشْفَانِي

عَزُومًا قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِ

کسے دشمن تھیں ہرگز خوف نہ کر
میرے دشمن نول کر ساں قتل ایسر

مرید! میرا نہ ہوتوں مضطر،
جو میں تحقیق ہاں ڈاٹھ ادلاور

أَنَا الْجَبَلِيُّ مُحَمَّدُ الدِّينِ إِسْمَىٰ

وَأَعْلَامِي عَلَىٰ رَأْسِ الْجِبَالِ

لقب میرا ہے محی الدین جبیلانی
بزرگی دے پہاڑاں نوں سراسر

وطن میرا پچھانوں ملک گیلانی
میری عظمت دے جھنڈے ہن تیرے

أَنَا الْحُسَيْنِيُّ وَالْمُخَدَّعُ مَقَامِي

وَأَقْدَامِي عَلَىٰ عُنُقِ الرِّجَالِ

میری جاگہ تیس مخدع پچھانوں
خدا کے لوگ جھپٹے ہن یکسر

حسن زدی نسل تھیں مٹیوں پچھانوں
قدم میرا ہے گردن اولیاء پر

وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورِ إِسْمَىٰ

وَجَدِّي صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ

جو عبد القادر ہے اہلی میرا نام
ہوئے ہن صاحب عین الکمالی

پچھاتی نام میرا خاص تے عام
میرا نانا تے دادا اکھی زوالی

فہرست عنوان مطالب

کتاب العمل بالسنة المعروفة بہ ترتیب شریف
حصہ ششم

صفحہ	عنوان مطالب	صفحہ	عنوان مطالب	صفحہ
	سلسلہ اشاعت ۱۲۷	۷	دیباچہ	۱
۵۵	دعائے حکاشہ		سلسلہ اشاعت ۱۲۲	۲
	سلسلہ اشاعت ۱۲۸	۸	ہفت ہیکل	
۶۷	دعائے معنی		سلسلہ اشاعت ۱۲۳	۳
	سلسلہ اشاعت ۱۲۹	۹	شش قفل	
۷۷	دعائے سیفی		سلسلہ اشاعت ۱۲۴	۴
	سلسلہ اشاعت ۱۳۰	۱۰	دعائے امن	
۸۲	دعائے گنج العرش		سلسلہ اشاعت ۱۲۵	۵
	سلسلہ اشاعت ۱۳۱	۱۱	دعائے نور	
۱۰۵	درود مستغاث		سلسلہ اشاعت ۱۲۶	۶
	سلسلہ اشاعت ۱۳۲	۱۲	دعائے جمیلہ	
۱۲۹	درود کبریت احمر			

صفحہ	عنوان و مطالب	صفحہ	عنوان و مطالب	صفحہ
	سلسلہ اشاعت ۱۳۰	۲۱	سلسلہ اشاعت ۱۳۳	۱۳
۲۸۹	درود ماہی		درود اکبر	۱۵۳
	سلسلہ اشاعت ۱۳۱	۲۲	سلسلہ اشاعت ۱۳۴	۱۴
۲۹۳	دعائے مستجاب		درود تفریحیہ	۱۹۳
	سلسلہ اشاعت ۱۳۲	۲۳	سلسلہ اشاعت ۱۳۵	۱۵
۲۹۷	دعائے ماثورہ		درود تاج	۱۹۷
	سلسلہ اشاعت ۱۳۳	۲۴	سلسلہ اشاعت ۱۳۶	۱۶
۳۲۳	دعائے ابراہیم ادہم		درود لکھی	۲۰۳
	سلسلہ اشاعت ۱۳۴	۲۵	سلسلہ اشاعت ۱۳۷	۱۷
۳۳۳	دعائے سریانی		قصیدہ بردہ	۲۱۳
	سلسلہ اشاعت ۱۳۵	۲۶	سلسلہ اشاعت ۱۳۸	۱۸
۳۴۵	قصیدہ غوثیہ		دعائے اعتصام	۲۵۱
			سلسلہ اشاعت ۱۳۹	۱۹
			دعائے حزب البحر	۲۶۱
			دعائے اختتام	۲۸۳
				۲۰